

# انڈیشوں کے گرفتار

مائل خیرآبای

# انتساب

اندیشوں کے گرفتاروں کے نام

مائل خیر آبادی

# فہرست

۵	عتابِ الہی	۱
۱۶	اندیشوں کے گرفتار	۲
۲۸	حُسنِ سیرت	۳
۴۴	بہن	۴
۵۰	موم کی گڑیاں	۵
۵۷	نقلی روزہ	۶
۶۸	اول انعام	۷
۸۳	چیتا مار	۸
۱۰۴	..... اور دریا میں ڈال	۹
۱۱۴	شیطان کا دربار	۱۰
۱۲۳	۳۰ برس کے بعد	۱۱
۱۳۹	ہیں یہ کچھ لیکن ؟	۱۲
۱۵۲	صلح کا فرشتہ	۱۳
۱۵۷	جھوٹے سہارے	۱۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

## عتابِ الہی

یہ عربی زبان کا شاہکار افسانہ ہے جسے ترمیم اور اضافے کے بعد خصوصاً ایک کردار بڑھا کر اردو میں شائع کیا جا رہا ہے۔

وہ جلد سے جلد شہر میں پہنچ کر اجتماع عام میں شریک ہونا چاہتے تھے انہوں نے سوچا تھا کہ شام تک شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ امیر شہر کے یہاں دعوت کھائیں گے۔ رات کی پرسکون فضا میں آرام کر کے سفر کی تکان مٹائیں گے۔ پھر دوسرے دن کارکنوں کے خاص اجتماع میں اپنے حلقہ مشرق وسطیٰ کی تبلیغی سرگرمیوں کی رپورٹ پیش کریں گے۔ اپنے گزشتہ منصوبے کا جائزہ لیں گے اور آئندہ کے لئے منصوبہ بنائیں گے۔ وہ سب ملا کر مشرق وسطیٰ کے چالیس نمائندے تھے جو راقش میں ہونے والے ایک عظیم سہمی اجتماع میں شرکت کرنے

کے لئے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک خدمت گار بڑھیا بھی تھی جسے انھوں نے اس کی درخواست پر ساتھ لے لیا تھا۔

چلتے چلتے انھوں نے محسوس کیا کہ دوپہر کے بعد سورج کی رفتار معمول سے زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ انھیں اندیشہ ہوا کہ شام تک شہر میں نہ پہنچ سکیں گے الا یہ کہ سب تیز چلیں — امیر سفر نے سب کو تیز چلنے کا حکم دیا۔ رواں دواں قافلے نے اپنی رفتار بڑھانے میں پوری قوت لگا دی۔ خدمت گار بڑھیا بھی پیچھے پیچھے سب کے ساتھ تھی اس کے لئے مشکل یہ بھی تھی کہ وہ کئی مبلغین کا سامان بھی سر پر لاوے تھی۔ وہ بار بار بہت پیچھے رہ جاتی اور اس کے لئے سب کو ایک لمحہ ٹھہرانا پڑتا وہ دل میں تو خوش ہوتے کہ اس بہانے سستانے اور دم لینے کے لئے کچھ موقع مل جاتا ہے لیکن جب امیر سفر بوڑھیا کو ڈانٹتا تو سب بھی اپنے امیر کی تائید میں اس ضعیف کو بُرا بھلا کہنے لگتے۔ بوڑھیا انھیں دعائیں دیتی اور پیچھے پیچھے گھسنتی جاتی۔

اس طرح سب مراقب کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ عصر کے وقت اچانک سب نے ایک عجیب سی بھیانک آواز سنی۔ مبلغ گھبرا گئے پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ انھوں نے اسے بھونچال محسوس کیا۔ انھیں ایسا محسوس ہوا جیسے زمین نے گردش کرتے کرتے اپنا محور چھوڑ دیا ہو زمین کی یہ کیفیت صرف چند لمحے ہی رہی۔ ان لمحوں کے گزر جانے کے بعد سب نے دیکھا کہ سورج کی چمک دمک ماند پڑنے لگی۔

جھلسا دینے والی ہوا کے تیز جھبوٹے سرد ہونے لگے۔ دیکھتے دیکھتے بادل گھڑائے پھرتاری کی اتنی بڑھی کہ راستہ چلنا دو بھر ہو گیا۔ امیر سفر نے حکم دیا کہ اس غدا ب سے بچنے کے لئے سامنے والے منہدم معبد میں پناہ لو اس کے حکم کے ساتھ سب اسی طرف لپکے اور کسی نہ کسی طرح معبد کی ایک کونٹھری میں گھس گئے۔ مڑا کر دیکھا تو محسوس کیا کہ جیسے ساری کائنات بحرِ ظلمات میں ڈوبی جا رہی ہو۔

اس کے بعد کالی گھٹاؤں کے غول سارے آسمان پر چھپا گئے پھر بوندا باندا ہی شروع ہو گئی اور پھر موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ گھنگھنور گھٹاؤں میں بجلیوں کی کڑک اور چمک اور بادلوں کی دل ہلا دینے والی گرج پیدا ہو گئی، بجلیاں اس تیزی سے کوندنے لگیں جیسے آسمان پر غدا ب کے فرشتے تلواریں چمکا رہے ہوں۔

مبلغ معبد کے کونوں میں دبک گئے بڑھیا کو دروں کے سامنے جگہ مل گئی۔ وہ کانپتی ہوئی اپنے سامان کے بیچ بیٹھ گئی، گھٹنے کھڑے کر کے دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے جکڑ لیا کہ وہ خود ایک گھٹری سی بن کر رہ گئی، اندھیرا ایسا تھا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ الّا یہ کہ بجلی کوندتی اور اس لمحے وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔

کچھ دیر کے بعد امیر سفر نے چچاق سے قندیل روشن کی۔ اس نے کوئی وظیفہ زیر لب پڑھا اور اپنے پورے رامبازہ جاہ و جلال کے ساتھ گویا ہوا۔

”میرے مسیحی بھائیو! نہ تو یہ صحرا کی آندھی ہے نہ ریگستانی بارش اور نہ یہ عام

طوفان ہے۔ دیکھو مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ کوند نے والی یہ غضبناک بجلیاں یہ گڑگڑانے والے دنزاتے اور دل ہلانے والے بادل اور یہ بجز ظلمات سے زیادہ تاریک رات سب کے سب مل کر قدرت کے شدید انتقامی ردِ عمل کو ظاہر کر رہے ہیں۔ مسیحی بھائیو! یہ عتاب الہی ہے، تہ خدایندی ہے۔ آسمانی عذاب ہے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ ہم چالیس ساتھیوں میں ضرور کوئی گنہگار ہے جس کے گناہوں کی پاداش میں آسمانی غضب نازل کیا گیا ہے بتاؤ، ہم میں وہ کون گنہگار بندہ ہے؟

رئیس المبتلین کی یہ تقریر سن کر سب رونے لگے اور اپنی اپنی جگہ سمٹ گئے۔ اس نے پھر گرج کر کہا: "آسمانی عذاب تمہارے رونے سے ٹل نہیں سکتا۔ بتاؤ ہم میں کون گنہگار ہے؟ دیکھو بدروحیں اس کے گناہوں پر تہقہ لگا رہی ہیں۔ موت کی پیاسی بجلیاں اس گناہگار کا خون پینے کے لئے بے قرار ہیں۔ ضرور ہم میں کوئی گنہگار ہے جسے سزا ملنی ہے دیکھو سنو! میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو باری باری میدان میں جانا ہوگا۔ معبد کا طواف کرنا ہوگا اور پھر وہ سامنے والا کنواں چھو کر آنا ہوگا تاکہ جو گناہگار قابلِ عتاب ہو، قضاء سے آدبوچے اور باقی محفوظ اور مامون رہیں ورنہ صرف ایک گناہگار کے لئے ہم سب کو نشانہ عذاب بنا ہوگا خدا کا قہر، ہم سب پر نازل ہوگا۔ موت ہم سب کو فنا کر دے گی۔ بتاؤ پہلے کون معبد سے باہر جائے گا۔"

امیر المبتلین سب کو بغور دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد بولا: "تم سب کو اپنی جانیں پیاری ہیں اچھا لو سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اور دیکھو، یہ میرے پیروں کے پاس

میرا بتر ہے اگر میں اس عقاب کی نذر ہو جاؤں تو یہ بتر میرے ورثہ تک پہنچا دینا یہ میری وصیت ہے کہ اسے کھولا نہ جائے۔ اور دیکھو میں تم کو گواہ بنا سکتا ہوں۔ خدا نے مجھ جو علم دیا تھا۔ میں نے اسے پھیلا نے میں اپنی پوری زندگی کھپا دی۔ آج تم ساری مسیحی دنیا میں میرا نام بچے بچے سے سن سکتے ہو۔ کیا تم میری اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ وہ دوسرے مبلغین کی طرف دیکھنے لگا۔

اے ہمارے اطراف کے مقدس باپ! آپ واقعی ایسے ہی ہیں۔ اللہ اور ابن اللہ آپ کو اس غدا ب سے محفوظ رکھے۔ سب نے گواہی دینے کے ساتھ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ بڑا مبلغ ”یا مسیح“ کا وظیفہ پڑھتا ہوا معبد سے باہر گیا اور اندھیری رات میں گم ہو گیا۔ کوٹھڑی میں سمٹے ہوئے لوگ خدا جانے کیا دعا کر رہے تھے۔ ان لمحات میں جب بجلی کو نہتی تو اس لمحہ بھر کی روشنی میں سب باہر کی طرف دیکھنے لگتے۔ ایک بار سب نے دیکھا کہ امیر سفر معبد کا طواف کر کے کنویں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سب نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں تھیں کیونکہ بجلی کو نہنے کے بعد ایک زبردست کڑا کے اور بادلوں کی گرج سے زمین کے ساتھ ان کے دل بھی ہل گئے تھے۔ مشرق سے مغرب تک آسمان میں اضطراب پیدا کر کے بجلی کنویں کے پاس سے گزر کر فضا میں جذب ہو گئی اسی لمحہ ایک سایہ نے ”یا مسیح“ کا نعرہ مارا کنویں کو چھوا اور بھیگتا بھاگتا معبد میں داخل ہوا۔ سب نے دیکھا کہ امیر کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر معصومیت کا نور ہالہ کے ہوئے تھا۔ سارے ساتھی اس کے بھیگے دامن سے چمٹ گئے اور جسے جو حصہ ملا اسے چوسنے اور چومنے لگے۔



اب امیر نے اپنے نائب کو حکم دیا " اٹھو، اب تمہاری آزمائش کی باری ہے۔ " عیسائی اپنے مقدس باپ کا حکم کسی حال میں ٹال نہیں سکتے تھے۔ نائب کا نپتا تھر تھراتا اور روتا ہوا اٹھا اس نے کہا میرے مسیحی ساتھیو! تم سب جانتے ہو میں انجیل مقدس کے جزو نملا باب ابن اللہ کا حافظ ہوں۔ تم سب گواہی دو گے کہ میں اس کا واحد حافظ ہوں جس وقت تم آسمانی آوازیں سننا چاہتے ہو میں اس وقت کلام الہی سنا کر محفوظ کرتا ہوں میں نے اس میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ میری قراءت کی گواہی مسیحی دنیا میں ہر کوچہ اور ہر گلی کی ہر اینٹ اور ہر ذرہ دے رہا ہے۔ کیا تم بھی گواہ ہو؟ "

" بے شک ہم سب گواہ ہیں " سب نے کہا۔

" اچھا تو اب میری وصیت سنو۔ تم میرے بعد میرا سامان لے سکتے ہو۔ لیکن میرے سامان میں ایک سیاہ بٹوہ ہے۔ اُسے تم نہیں کھول سکتے۔ یہ بٹوہ تم واپسی کے بعد میری مطلقہ ام النجاس کو دے دینا۔ "

اس وصیت کے بعد نائب دعاؤں کا وظیفہ زبان سے ادا کرتا ہوا معبد سے نکل گیا اور سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گھنگھور گھٹائیں اب بھی پورے دھماکوں کے ساتھ گرج رہی تھیں بجلیاں چمک چمک کر آنکھوں کی بصارت پر ڈاکہ ڈال رہی تھیں۔ ایک بار کوند میں سب نے دیکھا کہ نائب معبد کے طواف کے بعد کنویں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوند کے بعد صرف سایہ محسوس ہوا۔ یہ سایہ کنویں کے پاس پہنچا ہی تھا کہ بجلی کرط کی چمکی، گری اور کنویں کے پاس سے گزر کر اندھیری فضاؤں میں جذب

ہو گئی۔ نائب بال بال بچ گیا۔

اس کے آنے کے بعد امیر نے ایک راہب کو حکم دیا کہ وہ اسی عمل کو دہرائے  
راہب سر سے پیر تک ایک چادر سے لپٹا ہوا تھا اس نے کہا ”آپ سب جانتے  
ہیں اور خدا بھی جانتا ہے کہ میں ایک رئیس التجار کا بیٹا ہوں۔ میں نے دینِ مسیح کی خاطر  
دولت دنیا پر لات ماری اور سب کچھ ترک کر کے اس مشن میں شامل ہوا اور پھر میں نے  
آرام اور سکھ کی صورت نہیں دیکھی۔ کیا آپ میرے اس اقدام کے شاہد ہیں؟“  
”ہم سب شاہد ہیں“ یہ شہادت لے کر راہب بھی موت سے لڑنے کے لئے

نکلا اور اسی طرح زندہ و سلامت واپس آیا جس طرح اس سے پہلے اس کے دو پیشرو  
واپس آئے تھے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے مبلغ اس سخت آزمائش سے  
دوچار ہوئے اور سب کے سب کامیاب ہوئے۔ امیر سفرِ حیران رہ گیا کہ پھر کیا بات ہے  
کہ یہ طوفانی عذاب ہم کو گھیرے ہوئے ہے ”اب کوئی باقی نہیں رہا“ اس نے سوالیہ نشان  
سب کے سامنے پیش کیا اسی وقت ایک کوند ہوئی۔ سب نے دیکھا کہ دروں کے سامنے  
بڑھیا گٹھری بنی کانپ رہی ہے۔

”یہ ہے وہ گناہگار، جلد اسے دفنان کرو“ کئی آوازیں کوٹھری میں بلند ہوئیں  
اور امیر سفر نے بھی صواد کیا۔ وہ گر جا:

”اوبد روح کی اولاد اتیرا خیال ہی نہ رہا۔ ساتھیو! یہی ہے تو ان کی وہ بیٹی جو اس  
عتابِ الہی کا باعث ہے۔ ہمیں اسے ساتھ نہیں لانا چاہئے تھا۔ اوسانپ کا نطفہ!

اوشیطان کی ایجنٹ، اے مرد کی سب سے بڑی کمزوری! اے آدم کو جنت سے نکلوانے والی! نکل ہمارے درمیان سے۔“ اور پھر امیر سفر نے بڑھیا کے ایک ٹھوکرو کر سید کی۔

”اے مقدس باپ اور اے پاک روحوں کے منو! ہاں مجھے اقرار ہے کہ میں گناہگار ہوں۔ میری ساری عمر گناہوں میں گزری لیکن میں نے توبہ کر لی ہے اور آپ کے قدمِ مہمتِ لازم سے اس لئے چمٹی ہوں کہ خدا مجھے پاک کر دے۔ مسیح کا صدقہ مجھے اپنے مبارک سایہ سے الگ نہ کیجئے۔ آپ کے سہارے زندگی کی کچھ سانسیں اس دنیا کی اور حاصل کر لوں۔“

”نہیں ہرگز نہیں! ہم سب تیری وجہ سے عذابِ الہی مول نہیں لے سکتے۔“

امیر سفر کے حکم پر بڑھیا اس کے پاؤں سے لپٹ کر دہائی دینے لگی۔ مقدس باپ مجھے پورا یقین ہے کہ میں زندہ و سلامت واپس نہیں آسکتی اور نہ مجھ میں یہ جرأت ہے کہ آپ کے حکم کو ٹال کر آخری اور سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر سکوں میں آپ کا حکم بجالاؤں گی۔ میری وصیت سن لیجئے میں نے توبہ کے بعد سوت کات کر کچھ رقم بچائی ہے۔ اس رقم کو مراقش پہنچ کر اجتماع عام میں خیرات کرنا چاہتی تھی۔ آپ میری رقم قبول فرمائیں۔

اور یہ کہہ کر بڑھیا نے چند سکے مقدس باپ کے قدموں میں ڈال دئے پھر وہ نہایت سکون سے اٹھی اور فضا کی تاریکی میں جذب ہو گئی۔ بجلیوں کی چمک اور کڑک میں دس گنا اضافہ ہو گیا زمین پھر ہی اور آسمان و زمین ایک ساتھ متزلزل ہو گئے۔ دھماکے شدید سے شدید تر ہو گئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ آسمان جہنمی گولے زمین کی طرف پھینک رہا ہے۔ بجلی کی

ایک کوند میں سب نے دیکھا کہ بڑھیا نے بھی اپنا طواف پورا کر لیا تھا پھر تاریکی میں اس کا سایہ کنوئیں کی طرف بڑھتا نظر آیا جیسے ہی بڑھیا نے کنوئیں کو چھوا۔ آسمان کے سینے میں جلیوں کا طوفان چمک اُٹھا۔ اتنی کرخت آواز سے بادل گر جا کہ ساری زمین ہل گئی سب نے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ "اف گناہگار عورت" سب کی زبان سے نکلا۔ بجلی تیزی سے چمکی اور ترپنی اور لہرائی۔ بڑھیا نے اپنا سر کنوئیں کی من پر رکھ دیا۔ اے آسمانوں کے مالک ایک حقیر جان قبول کر لے اور اپنے پیارے بندوں کو خوف اور سراسیمگی سے بچالے۔!"

ایک زبردست کوند پھر ہوئی۔ اس کوند میں ساری کائنات روشن ہو گئی اور پھر آسمان پر بجلی کی ایک لمبی سی لہر چمک کر زمین کی طرف چلی۔ ساتھ ہی ہزاروں کڑکوں سے زیادہ بھیانک ایک کڑک ہوئی۔ ایک تیز شعلہ سا اُٹھا بجلی اپنی مکمل آب و تاب اور غضب ناک کے ساتھ بڑھیا کے سر پر چمکی۔ بڑھیا لڑکھڑا کر گری اور ساتھ ہی معبد سے ایک دردناک چیخ اُٹھی بجلی گر کر زمین میں سما گئی۔

دیکھتے دیکھتے بادل چھنٹ گئے۔ پانی برسنا بند ہو گیا۔ فضا تاریکی سے پاک ہو چکی تھی آسمان پر دھلی ہوئی چاندنی دوڑ گئی۔ چاند چمکنے لگا۔ اور۔ اور۔ اور۔ اور۔ یہ کیا بہ بڑھیا ہوش میں آگئی۔ وہ اٹھی اور معبد کی طرف واپس ہونے لگی۔ مگر اس کی چیخ نکلی "او خدا! وہ معبد کہاں گیا۔ وہ مقدس بندے کہاں چلے گئے۔ اف میرے خدا! معبد کی جگہ یہ بھیانک غار" وہ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔"

صبح کو جب بڑھیا ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ مراقش کے لوگ اُسے گھیرے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ تو کون ہے؟ کیا تو نے چالیس مقدس انسانوں کے قافلے کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ عنقریب ہم سے ملنے والے تھے۔

بڑھیا ہر تکاب کا سب کے چہرے تک رہی تھی۔ وہ بول نہ سکی۔ اس نے انکلی سے اشارہ کیا مطلب یہ تھا کہ ”یہاں ایک معبد تھا سب اس میں پناہ گزین تھے معلوم نہیں معبد کے ساتھ وہ سب کہاں چلے گئے۔ کیا تم بتا سکتے ہو؟“

کہتے ہیں کہ اسی دن اجتماعِ عام میں ایک مقرر نے اپنی تقریر میں کہا:-

”وہ چالیسوں مرد بے عمل اور ریاکار تھے خدا نے اس عورت کی وجہ سے انھیں

تاویر محفوظ رکھا۔ پھر جب انھوں نے عورت کو الگ کیا۔ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا۔ لوگو! مرد جب عورت کو زمین پر تنہا چھوڑ دے گا اور اس کی حفاظت نہ کرے گا تو وہ آسمانی عذاب کا شکار ہو جائے گا۔“

# اندیشوں کے گرفتار

مسیتا سائیں تکیہ کرامت شاہ میں عشاء کے وقت تک رہتا تھا۔ عشاء کے بعد وہ اپنے گاؤں چلا جاتا اور پھر صبح کی نماز تکیہ کی مسجد میں آکر پڑھتا تھا جب تک وہ تکیہ کے احاطہ میں رہتا، مختلف قسم کے اوراد و وظائف میں مصروف رہتا جو ارا دتمند کرامت شاہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے آتے مسیتا سائیں سے ضرور ملتے۔ مسیتا سائیں ان کو بزرگانِ دین کی کرامتیں تمثیلوں اور کہانیوں کے انداز میں سنایا کرتا اور پھر جب عشاء کے بعد گھر جاتا تو اپنی بیوی کو بھی سناتا۔ عورتوں میں دینی رجحانات ہوتے ہی ہیں۔ مسیتا کی بیوی بڑے شوق سے سنتی، یاد رکھتی اور جب صبح کو مسیتا اپنے تکیہ پر چلا جاتا تو وہ دوسری عورتوں کو وہی تمثیلیں اور کہانیاں سناتی۔ عورتیں ان کہانیوں سے بڑی نصیحت حاصل کرتیں اور جہاں تک ان سے ہوتا بزرگانِ دین کی پیروی کرنے کی کوشش کرتیں مسیتا سائیں کی بیوی فاطمہ کا کہنا تھا کہ ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو سننے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ان سے مزہ لیا جائے بلکہ جو کچھ سنا جائے اس سے اپنی زندگی سنواری جائے اس کا حافظہ بھی اچھا تھا۔ مسیتا سائیں تو اپنی کہی کہانیاں اور واقعات بھول جاتا یا بھول

نہ جاتا تو روزمرہ کی مصروفیتوں میں نظر انداز کر دیتا لیکن فاطمہ چونکہ ایک عملی عورت تھی۔ وہ اپنے شوہر سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھاتی اور اس بات نے اس کے کردار کو بہت زیادہ نکھار دیا تھا۔

ایک دن کی بات ہے کہ مسیتا سائیس عشرت کے بعد تکیہ کرامت شاہ سے اپنے گائوں جا رہا تھا وہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہوا جلدی جلدی اپنے قدم بڑھا رہا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی وہ رک کر کھڑا ہو گیا اور کان لگا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ کراہنے کی آواز کدھر سے اور کہاں سے آرہی ہے چاندنی چھٹکی ہوئی تھی۔ اسے معلوم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ داہنی طرف بڑھا اس نے ایک کھڈ میں جھک کر دیکھا۔ کراہنے کی آواز اسی گڈھے سے آرہی تھی اس نے دیکھا ایک کڑیل جوان کھڈ کے اندر زخمی حالت میں پڑا ہے اور اس کے نیچے ایک مڑوہ گھوڑا بھی۔ مسیتا سائیس کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ وہ سمجھ گیا تیرا ترکش والا یہ جوان ضرور کوئی شکاری ہے جو اچانک اس کھڈ میں آگرا۔ اس کا گھوڑا اس اچانک حادثے سے مر گیا۔ لیکن وہ خود ابھی زندہ ہے۔ مسیتا سائیس اس زخمی جوان شکاری کی جان بچانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ آس پاس راستہ اور میدان سنسان تھا۔ مدد ملنے کی کہیں سے کوئی امید نہ تھی۔ وہ تن تنہا کھڈ میں اتر گیا۔ اس نے پوری قوت لگا کر اَللّٰہُ کا نعرہ لگایا اور جوان شکاری کو پیٹھ پر لا کر اوپر لے آیا۔ جوان شکاری بے ہوش تھا۔ مسیتا کو پہلی بار یہ تجربہ ہوا کہ بے ہوش آدمی کا بدن ہوشیار آدمی کے بدن کے مقابلے میں کئی گنا

بھاری ہوتا ہے۔ اس نے اسے کھڈ کے کنارے گھاس پر لٹا دیا اور پھر سوچنے لگا کہ اُسے گھرتک کیسے لے جایا جائے۔ اس نے ایک نظر پھر راستے اور سنان میدان پر ڈالی اب بھی اللہ کے سوا کوئی مددگار دکھائی نہ دیا۔ اس نے ہمت سے کام لیا۔ زخمی جوان کو پھر پٹیٹھ پر لادا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔

وہاں فاطمہ شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ مسیتا کو آنے میں دیر ہوئی تو وہ فکر مند ہونے لگی۔ وہ بار بار اپنے کچے گھڑے دروازے پر آکر دیکھتی، جھانک کر دور تک راستہ پر نظر ڈالتی اور پھر جب اس کا مناسوتے سوتے منمناتا تو واپس کو ٹھہری میں چلی جاتی۔ ایک بار جب وہ دروازے پر آئی تو دیکھا کہ شوہر کسی کو لادے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ لاش کے بوجھ سے وہ باجا رہا ہے بار بار سنبھالتا ہے لیکن چونکہ خود جوان ہے اور ہمت بھی جوان اور زبان پر لَآءِ الدِّیْنِ اِلَّا اللّٰهُ کا وظیفہ ہے وہ اسی بل بوتے پر آ بھی رہا تھا۔ فاطمہ اس حال میں دیکھ کر لپکی ”تم یہ کسے لادے ہوئے ہو؟“ اس نے پوچھا اور جواب کا انتظار کئے بغیر بولی ”اچھا اسی جگہ ٹھہرو میں چار پائی لے آؤں۔“

مسیتا سائیں بے حد تھک چکا تھا۔ اب تک وہ اپنے بل بوتے اور حوصلے کے سہارے لاش کو لادے ہوئے آ رہا تھا۔ لَآءِ الدِّیْنِ اِلَّا اللّٰهُ کے سہارے اپنی ہمت کو تقویت دے رہا تھا۔ بیوی کا سہارا ملا تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کی طاقت نے جواب دے دیا۔ اس نے زخمی جوان کو زمین پر لٹا دیا۔ اور کھڑا ہو کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اب اسے خیال آیا کہ اپنی لاشھی وہ کھڈ کے پاس ہی بھول آیا۔ ادھر کھل مل جائے گی۔ اس نے کہا۔



اتنی دیر میں فاطمہ چار پائی لے آئی۔ اس نے شوہر کو پسینے پسینے دیکھا اپنی اور مہنی سے اس کے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے کہنے لگی۔ ”کون ہے یہ؟“

”دیکھتی نہیں، اللہ کا ایک بندہ ہے۔ اور بے چارہ موت کے منہ میں۔“

”ہے بے چارہ!“ فاطمہ نے پھر کچھ نہ پوچھا۔ دونوں نے مل کر زخمی جوان کو چار پائی پر ڈالا اور گھر کے اندر اٹھالائے۔ چار پائی پر شاید زخمی کو کچھ آرام ملا تو اس نے حرکت کی اور پھر اس کی زبان سے نکلا۔ ”پانی۔ پانی۔“ مسیتا پانی لینے چلا تو فاطمہ نے ٹوکا۔ ”ٹھہرو۔ چلو سے دینا، ایک دم پیالہ منہ سے نہ لگا دینا۔ ایک دو چلو سے زیادہ نہ پلانا نہیں تو مر جائے گا۔“ اور یہ کہہ کر وہ دودھ گرم کرنے لگی۔

سیتا نے ایک چلو پانی زخمی کے منہ میں ٹپکایا۔ زخمی غیر ارادی طور پر پی گیا۔ اس کے ہونٹ تر ہو گئے، زبان بھیگی تو پھر اس نے کہا ”پانی!“ سیتا نے ایک چلو پانی اور پلایا۔ ادھر فاطمہ نے پکارا۔ بس بس۔ اب میں دودھ لاتی ہوں۔“

سیتا سمجھا تھا کہ زخمی ہوش میں آ رہا ہے۔ پوچھنے لگا ”بھائی! کون ہو تم بہ خدا کرے تم جلد اچھے ہو جاؤ۔ تمہارا گھوڑا مر چکا ہے۔ اسی لئے میں تم کو گھر لے آیا۔ میں ابھی تمہاری مرہم ٹپی کرتا ہوں تم پرسوں اپنے گھر چلے جانا۔“

زخمی جوان نے جواب نہ دیا۔ فاطمہ گرم دودھ لے آئی تھی۔ اس نے چمچے سے گرم دودھ پلایا۔ کبھی ایک چمچ دودھ زخمی کے حلق سے اتر جاتا اور کبھی منہ سے گر جاتا۔ وہ زیادہ نہ پی سکا۔ شاید وہ کسی قدر ہوش میں آنے کے بعد پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔

گھر میں نہ جانے کب کا پرانا مرہم رکھا تھا۔ فاطمہ وہی لے آئی۔ زخموں کو صاف کر کے وہی مرہم لگا دیا گیا اور زخمی کو آرام کرنے کے لئے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔  
 ”ہے ہے، غریب نہ جانے کیسے کھڑے ہو گیا ہے“ فاطمہ نے مسیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

”نہ جانے کی کیا بات ہے۔ شکاری لوگ بے تحاشا شکار کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ کچھ دیکھتے تو ہیں نہیں۔ بس اسی لئے یہ حادثہ ہو گیا۔ گھوڑا اس میں گرا۔ اس کی ہڈیاں پسلیاں چور چور ہو گئیں اور شکاری چوٹ کھا کر بے ہوش ہو گیا۔“  
 ”دیکھو تو بے چارے کا کتنا خون نکل گیا۔ سارے کپڑے خون سے لت پت ہیں۔“

اور یہ کہتے کہتے فاطمہ نے اُسے چادر اڑھا دی اور پھر نہ جانے وہ کیوں چونک سی پڑی۔ گھر کے چراغ کی مدھم روشنی زخمی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ فاطمہ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی پھر وہ مڑ کر شوہر کے پاس آئی جسے اس نے کھانا دے دیا تھا۔ مسیتا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے بیوی کی طرف دیکھا۔

”ارے تیرا چہرہ فق کیوں ہو رہا ہے رسی!“ اس نے بیوی کو ڈرا ہوا محسوس کیا۔

”تم نہ جانو نہ پہچانو! میں کہتی ہوں۔ تم یہ کہے گھر میں لے آئے ہے فاطمہ نے چپکے سے کہا۔ اس کے اس طرح کہنے سے مسیتا گھبرا گیا۔ اس نے پیالہ اٹھایا۔ پانی پیا۔ پھر

پوچھنے لگا ”کیا تم اسے پہچانتی ہو؟“  
 ”پہچانتی تو نہیں اس کے یہ تیر، اس کی یہ کمان، اس کا یہ ترکش! ان سے پہچانو، یہ  
 کون ہے؟“

”میں تو یہی سمجھا تھا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ زخمی ہے، مدد کا محتاج ہے۔ اس کی  
 مدد کرنا چاہئے۔“

”مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ملتانہ ڈاکو ہے تم نے سنا نہیں۔ اس کی گرفتاری کے  
 لئے پانچ ہزار کا انعام ہے اور یہ بھی تو اگر کوئی اسے اپنے گھر چھپائے گا تو وہ بھی اسی کے  
 گروہ کا سمجھا جائے گا۔“

”بیوی سے یہ سنا تو سیتا سائیں کی ساری ہمدردی غائب ہو گئی۔ اس نے کہا  
 ”تو ابھی ہو اہی کیا ہے۔ آؤ چلیں۔ اسے تالاب کے کنارے ڈال آئیں۔“  
 ”نہ اب نہیں۔ اب تو تم اُسے پناہ دے چکے۔ تم کو وہ قصہ یاد نہیں جو اس جمعہ کو چھوڑ  
 اس جمعہ کو سنایا تھا۔“

”کیا۔“

”وہی کہ ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے اپنے بیٹے کے قاتل کو پناہ دی تھی۔ وہ  
 جانتے نہ تھے کہ ہی ان کے بیٹے کا قاتل ہے۔ پھر معلوم ہوا تو صبح ہونے سے پہلے اُسے  
 گھوڑا دیا۔ زور راہ دیا۔ اور کہا ”جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کے  
 غم میں تم کو قتل کر دوں۔“

”ہاں! یہ واقعہ تو سچا ہے“

”تو پھر تم بھی اسے پوری پناہ دیں گے“

”اور کل ہی چوکیہ دار راجہ صاحب کو خبر کرے گا۔ اور پھر تم جانتی ہی ہو کیا ہوگا“

”تم کہہ دینا کہ میں کیا جانوں، کون ہے۔ تم تو بس کہہ دینا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے“

”اور سن تو منے کی ماں“

”کیا کہتے ہو۔ چکے چکے باتیں کرو۔ کوئی سن نہ لے“

”مناسور ہا ہے نا!“

”اوئی! یہ کیا بات ہوئی، تم کچھ اور کہنا چاہتے تھے“

”میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم غریب ہیں“

”وہ تو میں ہی، اللہ کا شکر ہے“

”تو کیوں نہ یہ کریں کہ..... کہ..... کہ.....!“

”کیا۔ کہو؟“

”کل راجہ سے کہہ کر اسے پکڑو اور دوں، پانچ ہزار کا انعام لے لوں“

”ہائے اللہ! توبہ کرو منے کے ابا تم نے حاتم طائی کا قصہ سن لیا تھا۔ کسی دشمن نے

حاتم طائی کے قبیلے پر حملہ کر دیا مگر حاتم اس لئے نہیں لڑا کہ بیکار میں خون خرابہ ہوگا۔ وہ جنگل

کی طرف چلا گیا۔ دشمن نے دس ہزار اشرفیوں کے انعام کا اعلان کیا جو حاتم کو گرفتار کر لائے

اس کو ملے گا یہی باتیں لکڑہارا جنگل میں اپنی بیوی سے کر رہا تھا کہ حاتم مل جائے تو پکڑ کر

لے جاؤں۔ حاتم سن کر اُگیا۔ اور کہا ”چل بھائی مجھے گرفتار کر کے لے چل اور انعام لے۔  
یاد ہے نہ یہ قصہ۔!“

”یاد تو ہے۔ تیری کیا رائے ہے۔“

”میں تو سمجھتی ہوں تم ہمدردی کے طور پر بھولے سے اسے لے آئے۔ اب اس کی خدمت کرو۔ میں کل پرسوں تک کسی کو گھر میں آنے ہی نہ دوں گی۔ پرسوں تک یہ خود اچھا ہو جائے گا پھر اسے کچھ کہے بغیر رخصت کر دیں گے اور اپنے اللہ سے معافی مانگیں گے۔“  
تو بڑی ایماندار بیوی ہے۔ تو تجھے پانچ ہزار نہیں چاہئیں۔“

”نہ، مجھے اللہ کی خوشی چاہئے۔ بس!“

”میں تو تیرے لئے ہی کہہ رہا تھا۔ مجھے لالچ نہیں۔“

فاطمہ نے مسکرا کر شوہر کو دیکھا۔ مسیتا کھانا کھا چکا تھا۔ فاطمہ نے اس پر بات ماری۔ ”تم مرد بڑے ایر پھیر سے باتیں کرتے ہو۔ دل میں کچھ زبان پر کچھ، ہم عورتیں ایسی نہیں ہوتیں۔ ہمارے جو دل میں وہ زبان پر۔“

”تو تو اپنے کو رابعہ بصری سمجھتی ہے۔“ اور یہ کہہ کر مسیتا اپنی چار پائی کی طرف

بڑھا، جا کر لیٹ رہا۔ اور یلٹنے ہی سو گیا۔ فاطمہ نے برتن بڑھائے۔ اس نے ایک نظر زخمی جوان پر پھر ڈالی۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ ”اللہ تو ہی مالک اور مولا ہے۔“ اس کی زبان سے نکلا اور وہ اپنی کھٹیا پر جا کر لیٹ گئی۔ منٹے کو سینے سے لگا لیا اور سو گئی۔

صبح سویرے مسیتا سوکر اٹھا تو وہ ہٹکا بٹکا ہو کر رہ گیا۔ اس نے گھر میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر بیوی کو جگایا۔

”کیا ہے کیا؟ بیوی نے کروٹ لینے کے ساتھ ہی کہا؛

”ملتانہ بھاگ گیا“

فاطمہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور حیرت کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگی؛ اور میری چادر بھی لے گیا۔

”دیکھتی کیا ہے۔ وہ کوئی سوئی تھا جو نظر نہ آتا۔“ مسیتانے کہا ”چلو اچھا ہی ہوا، وہ

خود چلا گیا۔ اب ہم سے کیا غرض۔“

اور یہ کہہ کر اس نے اسی میں خیریت سمجھی کہ جلد سے جلد اپنے تکلے کی طرف چل دے، اس نے بیوی کو تانکید کر دی کہ اگر کوئی کچھ پوچھے تو کچھ نہ بتائے؛

مسیتا سائیں اپنے تکلے پر چلا گیا لیکن وہ پریشان سا رہا۔ دوپہر کے قریب اس نے دیکھا

کہ چار تکلے اسی طرف آرہے ہیں۔ اب تو وہ گھبرایا سمجھ گیا کہ راجہ کو خبر ہوگئی۔ نہ جانے فاطمہ پر کیا کڑی

دہ لپک کر مزار کے آس پاس بھاڑو دینے لگا اور کوئی وظیفہ پڑھنے لگا۔

سپاہی تکیہ میں آئے اور پوچھنے لگے ”مسیتا سائیں تم ہو۔؟“

مسیتا سائیں کی زبان لڑکھڑاگئی۔ کہنے کو تو اس کی زبان سے ”نہ“ نکل گیا لیکن دل میں کھد

بد ہونے لگی کہ فاطمہ کو پکڑا ہو تو۔۔۔؟“

تو پھر وہ کہاں ہے؟“ ایک سپاہی نے پوچھا؛

”یہیں کہیں ہوگا۔ کیا بات ہے؟“ اس نے سپاہیوں سے پوچھا۔ وہ ہر کلا بھی گیا، ساتھ ہی اسے محسوس ہوا کہ جیسے پیاس کے مارے حلق میں خشکی آجاتی ہے بالکل وہی حال اس کا ہے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ بات وہی ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم کو حکم ملا کہ مسیتا سائیں کو حاضر کرو۔“

”تم نے اسے اس کے گھر کیوں نہیں دیکھا؟“ مسیتا سائیں نے پوچھا۔ جواب میں سپاہیوں نے بتایا کہ راجہ صاحب نے اس کی بیوی کو بلایا ہے اب مسیتا کے لئے بھی حکم ہوا ہے۔

یہ سن کر مسیتا آنکھوں میں آنسو بھرا لایا۔ پاس آکر بولا میں ہی مسیتا سائیں! ہوں مجھے گرفتار کر لو۔“

”ہمیں گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، حکم ہے کہ مسیتا کو حاضر کرو۔ تو تم ہمارے

ساتھ چلو۔“

مسیتا نے اپنا سامان سنبھالا۔ لاشھی لی اور سپاہیوں کے آگے آگے چلنے لگا۔ راستے میں نہ معلوم بے چارے کو کیسے کیسے اندیشے آرہے تھے وہ ”یا اللہ یا رحمن“ کا وظیفہ پڑھتا جا رہا تھا۔ سپاہیوں نے گڑھی کے اندر پہنچ کر اسے اندر کر دیا اور پھر دو خاص سپاہیوں نے لے جا کر اسے راجہ کے سامنے پیش کر دیا۔ مسیتا نے جھک کر راجہ کو سلام کیا اور ساتھ ہی اس کی زبان سے نکلا: ”سرکار! میں بے خطا ہوں مجھے معلوم نہ تھا۔“

”ہوں۔ ہوں۔“ راجہ نے بڑھا کر کہا: ”رات کو تم نے ملتانہ کو اپنے گھر میں پناہ دی

اور اب کہتے ہو کہ تم بے خطا ہو۔ کیا تم نے ہمارا اعلان نہیں سنا!“

راجہ نے ڈانٹ کر یہ کہا تو مسیتا کو ایسا لگا کہ اس کے پاؤں کی طاقت جاتی رہی۔  
اس نے گڑگڑاتے ہوئے کہا ”سرکار! میں ملتانہ کو نہیں جانتا.....“  
”اچھا تو تم اس کی سزا بھگتو۔“

”اور سرکار میری بیوی ہے؟“

”تم دونوں کو سزا دی جائے گی۔ تمہاری بیوی حوالات بھج دی گئی۔“

مسیتا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، راجہ نے اس کے رونے کی پروا نہیں کی، وہ مڑا۔  
اور محل میں چلا گیا۔ چلتے وقت دونوں سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس اپرا دھمی کو پہلے رانی کی سیوا  
میں بھیجو۔ وہ بھی اس نڈرا پرادھمی کو دیکھنا چاہتی ہیں جس نے ملتانہ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔  
مسیتا کو بالکل یقین ہو گیا کہ اب موت قریب ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے کو کوسنے  
لگا، ”سچ ہی کہا ہے تجھدار لوگوں نے کہ بیوی کے کہنے میں کبھی نہیں آنا چاہئے۔ کاش کہ میں ملتانہ  
کو گھر میں نہ لاتا۔ لایا تھا تو پھر تالاب کے کنارے ڈال آتا۔ یا راجہ کو خبر کر دیتا۔ انعام کا  
انعام پاتا اور جان بھی بچتی.....“

دونوں سپاہی اس کے آس پاس چل رہے تھے اور دونوں کے مضبوط ہاتھوں  
میں اس کی دونوں باہیں تھیں۔

”میں بھاگوں گا نہیں۔ میں چور نہیں ہوں، میری بیوی اور میرا بچہ حوالات میں ہے تو میں  
بھاگ کر کیا کروں گا؟ مسیتا نے سپاہیوں سے کہا۔ ساتھ ہی اُسے خیال آیا کہ اُسے ہتکڑی  
اور بٹری کیوں نہیں پہنائی گئی۔“



وہ محل کے دروازے تک لے جایا گیا۔ دروازے پر سپاہی رُک گئے۔ اُسے اندر کر دیا۔ اب وہ محل کے سپاہیوں کے بیچ میں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کانپتا اور لرزتا ایک بڑے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے کے دروازوں پر ہرے ہرے پردے پڑے تھے اور ان پر رام اور سیتا کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ سپاہیوں نے ایک دروازے کا پردہ اٹھایا۔ اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔

اندر پہنچتے ہی اس کا داغ ماؤف سا ہو کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ رانی صاحبہ ایک چھوٹے سے مریض تخت پر براجمان ہیں۔ لونڈیاں، بانڈیاں ہاتھ باندھے کھڑی ہیں۔ فاطمہ بچے کو لئے ایک چارپائی کے پاس اُدا اس بیٹی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس نے بھی ایک نظر مسیتا کو دیکھا۔ لیکن اسے حکم نہ تھا کہ اپنی جگہ سے ہل سکے یا زبان سے بول سکے۔ مسیتا نے دیکھا چارپائی پر کوئی فاطمہ کی چادر اوڑھے لیٹا ہے۔ مسیتا سمجھ گیا کہ چادر مسیتا نے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے بڑھ کر اور شہوت کیا ہوگا۔ وہ موت کے لئے تیار ہو گیا اس نے بیوی کی طرف دیکھ کر انگلی اُپر اٹھائی گویا اس نے کہا کہ اب خدا کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا وہ موت کے لئے تیار ہو گیا تو اس کا دل بھی ٹھہرا، اب اس نے جھک کر رانی کو سلام کیا۔ اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا۔

”سرکار! میں ملتانا کو پہچانتا نہ تھا!“

”اچھا تو اب پہچان!“ اور یہ کہہ کر رانی صاحبہ نے فاطمہ کو حکم دیا کہ اپنی چادر اُتار لے۔

”مولا جو تیری مرضی“ کہہ کر فاطمہ نے چادر اُتاری اور ساتھ ہی اس کی زبان سے نکلا ”سرکار!“

وہ مسیتا کی طرف دیکھنے لگی۔ مسیتا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اس نے ایسا ڈرامہ کا ہے کو کبھی دیکھا تھا

اس نے دیکھا کہ راجہ صاحب مسکراتے ہوئے چار پائی پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس وہی  
 ترکش رکھا ہوا تھا اور انہی کپڑوں میں تھے جو زخمی جوان کے پاس رات کو فاطمہ اور مسیتا نے  
 دیکھے تھے۔ فاطمہ اور مسیتا دونوں سلام کے لئے جھک گئے۔  
 ادھر رانی نے ایک باندی سے کہا: "اس کے بچے کو اٹھالا اور میری  
 گود میں دے دے۔"

---

# حُسنِ سیرت

”اوئی، دولہا بھائی کالے — اُنھی سعیدہ مصالحت و صلحت کیا جانے وہ باہر سے آئی اور اس نے گولہ ساداغ دیا۔ ماں نے بڑھ کر اُسے چپ تو کر دیا لیکن آواز عورتوں کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ سب کی نظریں پروین کی طرف اُٹھ گئیں۔ پروین بے وہ جو ابھی ابھی پروین سراج بن چکی تھی پروین وہ جو اپنے گورے چٹے روپ رنگ میں ہر وقت دودھ سے نہائی معلوم ہوتی تھی۔ پروین وہ جو اپنے حسن و جمال میں ستاروں کو شرماتی تھی۔ عورتوں کو یقین نہیں آیا کہ اس کا دولہا کالا ہو سکتا ہے۔ سرگوشیاں ہونے لگیں کہ سعیدہ کو دھوکہ ہوا۔ بعض عورتیں چپکے چپکے یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور بعض کا ہمدردانہ لہجہ یوں بھی تھا۔ ”پھر آخر پروین کے لئے کیا دولہا آسمان سے آئے۔ آج کل اچھے بڑھتے ہی کب ہیں۔ شکل و صورت کے میں تو بے روزگار۔ بڑے گھرانے کے ہیں تو بے کردار، آوارہ و بد معاش، پڑھے لکھے ہیں تو نلکے کے نوکر بے گھر بے در اور اگر نیک سیرت ہیں تو خوبصورت نہیں، آخر ماں بے چاری کیا کرتی جو ان جہانہ کو بٹھا کر

بڑھیا کر دیتی۔ یوں بھی تو پچیس سے اوپر ہو گئی مغرب! یہ تو تھیں مہمانِ خواتین کی چرمی گونیاں۔ اس غریب پروین نے بھی بہن کی معصوم آواز سن لی تھی۔ اچانک وہ چونکی اس نے سعیدہ کی طرف دیکھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ ساری خواتین کی نظروں کے تیر اسی کی طرف ہیں تو وہ ان تیروں کی تاب نہ لاسکی۔ اس نے سر جھکا لیا اور ایک خلفشار میں مبتلا ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار وہ ایک ایسی ہی تقریب میں گئی ہوئی تھی۔ وہاں اس کی ہسپلی ٹریٹا نے چھت سے براتیوں کی طرف انگلی اٹھائی تھی اور بتایا تھا میرے لئے اس کا پیام آیا تھا۔ بھلا میں اس کا لے کلوٹے سے اپنا پتلو کیوں باندھنے لگی۔ میں نے صاف کہہ دیا امی جان سے کہ چودھویں کا چاند اس کا لے نمک کے پہاڑ پر نہیں چمکے گا۔

پروین نے پوچھا تھا کہ اس کا نام کیا ہے تو ٹریٹا نے سراج احمد ہی بتایا تھا غریب سوچنے لگی، کیا وہی سراج اس کا سرتاج بن گیا۔ اگر وہی ہوا تو۔ ہ اس کی زبان سے نکل گیا اس کے آس پاس اس کی ہجولنیں بیٹھی چہلیں کر رہی تھیں۔ سعیدہ کی آواز سے ان کی چہلو پراوس پڑ گئی۔ ایک سنجیدہ لڑکی نے شاید اس کا بیاہ ہو چکا تھا۔ ہاں اسی سنجیدہ نے کہا بھی ”اونھ سندر تالے کر کیا بازار میں بیچنا ہے۔ صورت کو کوئی دو دن چاٹ لے۔ آدمی کی سیرت اچھی ہونی چاہئے۔“ لیکن اس کی سنجیدہ بات پروین کے کانوں میں گرم سیسہ بن کر لگی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اچھا ہوا آج ثریا اس تقریب میں نہ آسکی وہ ہوتی تو سراج کو دروازے کی جھڑیوں سے، کواڑوں کی درازوں سے چھت کی منڈیروں سے

غرض کسی نہ کسی طرح ضرور دیکھتی اور پھر وہ کیا کہتی۔ مگر اس کے نہ ہونے سے کیا اصلیت اس سے چھپ جائے گی۔ آج نہیں تو کل وہ بھی جانے لگی۔ اور جب جانے لگی تو بات مارے گی، اری اندھی کیا تو نے دیکھا نہیں تھا اور پھر بھی اسے قبول لیا۔ ریشم میں کبل کا پیوند لگا لیا۔ مگر اس بے چاری کو کیا معلوم کہ ہفتہ بھر کے اندر ہی یہ سب طے ہو گیا۔ کس نے کس کو دیکھا، بس اماں ابا میں کچھ کھس پھس ہوئی اور باتوں باتوں میں ایک دن مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ اور نٹیل کالج میں ٹیچر ہے۔ سارے مہینے سوخواہ ہے، ہنڈرست و توانا اور شریف آدمی ہے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی کہ چلو اباجان میرے دشمن تو ہیں نہیں اُف اللہ! اس کی زبان سے نکل گیا۔ لڑکیاں اس کی طرف دیکھنے لگیں کچھ بے تکلف اس سے دریافت حال کرنے لگیں۔ مگر اس نے ٹال دیا اور پھر سوچنے لگی۔ کاش کہ سعیدہ اس بھرے مجمع میں نہ کہتی۔ مگر اس سے کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں دولہا بلایا ہی جائے گا۔ اور کچھ رسومات کے ادا کرنے کے بعد وہ مجھے ڈولے میں بٹھا کر چلتا بنے گا۔ تب تو سب دیکھیں گے ہی۔

ہوا بھی یہی ویسے چاہے مہمان عورتیں کچھ دیر بعد تقاضہ کرتیں لیکن جب سعیدہ سے دولہا کی تعریف سنی تو انھیں دولہا کو دیکھنے کے لئے بے چینی ہونے لگی۔ انھوں نے بلانے کا تقاضہ شروع کر دیا قریب قریب ساری عورتیں دلچسپی لینے لگیں۔ ادھر نوشہ کو اندر بلانے کا اہتمام شروع ہوا ادھر پروین کو وحشت ہونے لگی۔ اس کا بس چلتا تو وہ منع کر دیتی کہ مت بلائیں، لیکن وہ کیسے کہہ سکتی تھی۔ ہاں وہ یہ ضرور کر سکتی تھی اور اس نے کیا بھی

کہ اس کی بڑی بڑی زرگی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور پھر دیکھتے دیکھتے اس پر دورہ پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ پیرا بیٹھنے لگے۔ منہ سے کف جاری ہو گیا اور وہ بے حال ہو گئی گھر کی بڑی بوڑھیاں دوڑ پڑیں۔ لڑکیوں کو دہاں سے ہٹا دیا گیا اور تجربہ کار عورتیں نسئی نویلی دلہن کو سنبھالنے میں لگ گئیں۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ کامیاب ہوئیں۔ پروین کو ہوش آیا تو اس نے ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ ماں، ایسا نہیں کہ کچھ سمجھتی نہ ہو، وہ سب جانتی تھی۔ اس نے جواب میں اپنا سر بیٹی کے پیروں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اب یہ کہنا بیچارے کے پروین کس دل کے ساتھ رخصت ہو کر سراج کے ساتھ گئی۔

پروین کا دولہا سراج ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ یہ پیشہ اس نے اپنی طبیعت کی مناسبت سے اختیار کیا تھا۔ اسے درس و تدریس سے بڑا شغف رہتا تھا۔ اس کام سے اسے قدرتنا دلچسپی تھی۔ بہت سے غریب لڑکے مفت اس کے گھر پر پڑھنے آتے تھے۔ اور وہ ہر روز باقاعدہ ان پر ایک گھنٹہ صرف کرتا تھا۔ کتابی تعلیم کے ساتھ کسی نہ کسی مسئلے کو بہانہ بنا کر وہ بچوں کی ذہنی تربیت ضرور کرتا۔ وہ محلے میں بڑا ہر دل عزیز تھا۔ چھوٹے بڑے سب اس کے کردار اور اس کی شرافت و سعادت مندی کی تعریف کرتے تھے۔ اپنے کردار اور گفتار میں وہ ایک شریف انسان نظر آتا تھا۔ لیکن وہ اس کو کیا کرتا کہ تدریس نے اسے رنگ کا کالا بنایا تھا۔ اسے اپنے کالے رنگ پر اپنے پیدا کرنے والے سے شکایت بھی نہ تھی ایک بار جب اس کے بے تکلف دوستوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے رنگ پر

سنتقید کی تو ہمیں کر بولا، بھائی آخر کوئی نہ کوئی عیب ہونا ہی چاہیے۔ بے عیب خدا کی ذات ہے۔ ویسے میں تو اس رنگ کو عیب نہیں سمجھتا۔

سراج بہت خوش تھا جب اس نے سنا کہ والدین نے اس کی شادی ایک تعلیم یافتہ لڑکی سے ٹھہرائی ہے۔ اس نے یہ بھی سنا کہ لڑکی چندے آفتاب و چندے ماہتاب ہے اس نے ادھر تو توجہ نہیں دی۔ لیکن تعلیم کے متعلق دو چار سوالات اپنی بہن سے کئے، اور خاموش ہو کر اپنی رائے دے دی۔ اور پھر ایک دن بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لئے بڑا بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے نہ جانے کیا کیا منصوبے بنائے تھے۔ اس نے نہ جانے کیا کیا سوچا تھا۔ اس نے پہلی ملاقات کی اولین گفتگو کا موضوع بھی سوچ لیا تھا۔ لیکن اس کے ارمانوں پر اس پر لگی جب وہ جملہ عروسی میں داخل ہوا اور اس نے نئی نویلی دلہن کو ہاروں، گجر وں اور سرخ چادر کے بغیر مسہری کے پاس پڑی ہوئی آرام کر سی پر بیٹھ دیکھا۔ وہ کمرے میں قدم رکھتے ہی ٹھٹھک کر کھڑا ہو گیا۔

”آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ سامنے پڑی ہوئی کر سی پر بیٹھ کر جواب کا انتظار کرنے لگا اس نے کمرے کا جائزہ لیا ایک طرف ہار اور گجرے اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے غصے میں نوچ کر انھیں پھینک دیا ہو۔

”سنا تھا آپ پر دورہ پڑا تھا، کیا ابھی کچھ اثر باقی ہے؟“ اس نے پھر استفسار کیا اور پھر برجستہ اس کی زبان سے دعائیہ کلمات نکل گئے۔

” اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر میں ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کو خوش رکھ سکوں اور آپ کے وہ سارے حقوق ادا کر سکوں جو شرعاً مجھ پر عائد ہوتے ہیں۔“

پروین اب بھی چپ تھی۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی اور وہ اس طرح سانس لے رہی تھی کہ اس کا سینہ بار بار اُبھر آتا تھا۔ سراج نے اس کیفیت کو محسوس کیا۔ اس نے پھر کہا ” اگر ضرورت ہو تو ڈاکٹر کو بلاؤں۔“

” کیوں۔“ آخر وہ پھٹ پڑی۔ ” ڈاکٹر کیا میرے درد کا علاج کر دے گا، ڈاکٹر کیا آپ کے کالے رنگ کو گورا کر دے گا۔ آپ مجھے کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنگ روپ میں میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں؛ وہ پھر لمبی لمبی سانئیں لینے لگی۔“

” پروین!“

” دیکھئے میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ میرا نام مت لیجئے، اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں تو فوراً کمرے سے نکل جائیے۔“

” بہتر ہے، میں کمرے سے نکل جاؤں گا۔ لیکن ایک بات آپ بتادیں جب مجھ کو ٹوٹے کو آپ نے پسند نہیں کیا تو میرے ساتھ اللہ اور رسول کا نام لے کر نکاح ہی کیوں منظور فرمایا؟“

” مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ آپ جیسے کالے نمک کے پہاڑ پر برف کی طرح



مجھے گکھلنا پڑے گا۔“

”ماشاء اللہ! گفتگو تو آپ بڑے ترقی پسندانہ ادب میں کرتی ہیں۔ براہ مہربانی یہ بھی فرما دیجئے کہ نکاح کے بعد وہیں یعنی اپنے والدین کے سامنے یہ مسئلہ کیوں نہ پھیرا، کہ یہ منحوس صورت آپ کے سامنے اس وقت کیوں ہوتی ہے؟“

”ماں کی عزت کا خیال تھا۔ گھر میں سیکڑوں عورتیں تھیں۔ میں مجبور ہو گئی۔“

”تو میں بھی ایک گزارش کروں۔ میرے گھر بھی مہمان موجود ہیں۔ میں آپ کا منشاء سمجھ گیا۔ آپ اپنے دل میں گکھراہٹ محسوس نہ کریں۔ میں ابھی جاتا ہوں لیکن آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم کل تک صبر فرمائیں۔ کل مہمان خصمت ہو جائیں گے۔ دن گزرنے کے بعد آپ اپنے والدین کے گھر ہوں گی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پر کسی طرح کی زبردستی نہ ہوگی اور نہ یہ ناکفہ بہ گفتگو کسی کے سامنے نقل کی جائے گی۔ اچھا فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔“

سراج کرسی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پروین اسے دیکھتی رہی اس کے جاتے ہی اس نے کواڑ بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ اس کا خیال تھا کہ سراج کے جانے کے بعد اس کی بہنیں اور بھجوا دیں کمرے میں گھس آئیں گی مگر کواڑوں پر ہلکی سی دستک بھی نہ ہوئی شاید سراج نے منع کر دیا ہو۔ ایک خیال اس کے دماغ میں گونجا اور وہ مسہری پر جالیٹی اور گھنٹوں نہ جانے کیا سوچتی سوچتی نیند کی گود میں پہنچ گئی۔

واقعی دوسرے دن سراج اس کمرے کی طرف ہو کر نہیں نکلا۔ اس کے

گھر والوں نے اسے اس کی جیا پر منطبق کیا لیکن اس کے گھر والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب عشاء کے وقت اس نے ماں سے کہا کہ پروین کو اس کے ماں باپ کے گھر بھجوا دیجئے اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ گھر والوں کو حیرت تو ہوئی لیکن وہ اپنے بیٹے کے متعلق بہت خوش گمان تھے۔ اس کی خواہش پر پروین کو رخصت کر دیا۔ پروین گھر پہنچی تو وہاں بھی سب انگشت بدنداں رہ گئے۔ ماں نے بیٹی کے تیور پہچان لئے تھے، مگر وہ اس وقت کچھ نہ بولی۔ تھی بھی تو عجیب بات۔ رات کو نوبے اور سراج کے بغیر پروین پہلے چالے میں اکیلی آئی۔ سراج سمجھا رہا تھا کہ اس نے رات کو بھینجا۔ ورنہ دن میں زبانِ خلق کو کون روکتا۔

لیکن کیا پھر دن نہ آیا اور پھر کیا زبانِ خلق کو کسی نے روک لیا۔ دوسرے دن اہل محلہ کو معلوم ہو گیا۔ پروین کی سہیلیاں دوڑ پڑیں۔ کوئی شوہر کی نشانی دیکھنے کے شوق میں۔ کوئی پروین پر آوازیں کسنے۔ کوئی سسرال کے چڑھائے ہوئے زیورات دیکھنے مگر یہ سب کی سب صحن میں ہی روکی گئیں۔ ماں نے کہہ دیا کہ پروین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے بھیڑ سے منع کیا ہے۔ مگر بوا کو کون روکتا۔ وہ دندنا تی ہوئی اپنی بھنٹو کے پاس پہنچ گئی اور اسے ایک نظر دیکھتے ہی بولی۔ اونئی! یہ تو جیسی گئی تھی ویسی ہی واپس آئی۔ دراصل یہ بہت بڑی چوٹ تھی جو بوانے کی تھی۔ پروین سُن کر غصے سے بے تاب ہو گئی اس نے بوا کو ڈپٹ دیا۔ ایسے ہی آگئی تم سے کیا؟

”اونئی مجھ سے کیا۔ اری نازو میں نے تجھے گو دوں کھلایا ہے۔ میرا حق ہے۔“

مجھے یوں جواب نہ دے۔ میاں چاند تارا ہوتا تو شاید ماں باپ سے تو اسی طرح بات کرتی۔  
 بُو آنے دوسرا بھر پور طنز کیا۔ اس طنز سے وہ بلبلا گئی۔ یہی تو وہ بات تھی جس  
 نے پروین کی دنیا تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ ماں نے بو کو بلا لیا۔ پھر  
 میاں سے کچھ تنہائی میں باتیں کیں۔ دونوں متفکر ہو گئے۔

شام کو کھانا کھانے کے بعد باپ نے بیٹی کو سمجھانا شروع کیا۔ بیٹی میں تمہارا  
 دشمن نہیں ہوں۔ میری نظر میں وہ سارے نوجوان ہیں جن سے تمہارا رشتہ کیا جاسکتا  
 تھا۔ قاضی صاحب کا لونڈا محض کندہ ناتراش ہے۔ مفتی احسان اللہ کا لڑکا نرالا۔ سیٹھ  
 جمال کا لڑکا خوبصورت ہے۔ لیکن کچھ پڑھ لکھ نہ سکا۔ الطاف اللہ صاحب کا گھرانہ بہت  
 باعزت ہے لیکن اس گھرانے کا ہر نوجوان عیاش اور شرابی ہے۔ اب کیا میں ان میں سے  
 کسی کو اپنی پیاری بیٹی سوئپ دیتا۔ لے دے کے یہ غریب پٹھر چنچا۔ تو بیٹی بے عیب تو ذات  
 خدا کی ہے۔ کالا پن کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ جسے جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پھر  
 کون جانے کل کیا ہو۔ نسرین کو تم نے دیکھا، کیسی پھول سی تھی تھی۔ عین جوانی میں چچک  
 نکلی اور اس غریب کا چہرہ کھنڈر ہو کر رہ گیا۔ میری رائے ہے کہ صبر سے کام لو۔ ہو سکتا ہے  
 آگے چل کر تم کو اس کی کوئی ایسی عادت پسند آجائے اور وہی کالا چہرہ تم کو خوبصورت نظر  
 آنے لگے۔ نگار کو دیکھو کیسی خوبصورت ہے۔ لیکن اس کا شوہر اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی  
 نہیں دیکھتا۔ اس نے ایک سانولی سلوٹی طوائف کو گھر میں ڈال لیا۔ آخر کوئی وجہ تو ہے  
 کہ خوبصورت نگار کے مقابلے میں وہ سانولی اُسے بھاگی۔ بیٹی! میں نے دنیا بہت

دیکھی ہے۔ مجھے تمہارا یہ کالا سراج ہزاروں چاند اور ستاروں سے اچھا لگتا ہے۔ اس کی پہلی شرافت یہی دیکھو جو اس نے پہلی بار تمہاری برہمی پر برقی۔ وہ تم کو اس طرح بدنام کر کے طلاق دے سکتا تھا کہ ہم سب موت کی دعا کرنے لگتے۔ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے مگر اس نے کس احتیاط سے کام لیا۔ ذرہ برابر جبر نہ کیا۔ قانونی و شرعی دونوں حیثیتوں سے وہ تمہارا شوہر ہو چکا۔ وہ چاہے تو تم کو اس گھر سے اٹھوالے۔ پڑھ لکھ کر ملے پر یہی تمہاری نظر ٹنگ گئی۔ بلتے کے اندر تم نہیں دیکھ سکتیں، افسوس صد افسوس!

والد محترم! اپنا دماغ ختم کر کے خاموش ہو گئے۔ پروین ٹس سے مس نہ ہوئی، صبح ہوئی تو محلے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ یہ باتیں کسی نہ کسی طرح اس گھر میں بھی پہنچتی تھیں۔ پروین کے کانوں میں پڑتیں۔ اسے بڑی وحشت ہوتی۔ پھر ایک دن ماں نے کہا پادشاہ تک تو اپنے گھر بٹھا کر بیٹھ کو کھلا نہیں پاتا تو پروین کو بڑا برا لگا۔ اسی ہفتہ وہ گرلس کالج کی پریل صاحبہ سے جا کر ملی اور اس کے دسویں دن وہ بورڈنگ ہاؤس کی انچارج کنی مغلزن بن کر وہیں چلی گئی۔ ماں باپ دیکھنے کے دیکھتے رہ گئے۔

بورڈنگ ہاؤس میں وہ ہر وقت اپنے کو مصروف و مشغول رکھنے کی کوشش میں رہتی۔ کوئی کام نہ ہوتا تو اقامتی لڑکیوں کے پرانے چہروں کی مرمت کا کام لے بیٹھتی۔ ایسی خدمات سے وہ استانیوں اور لڑکیوں سب میں ہر و لغزیز تو ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر جو برہمی شادی کے دن نمایاں ہوئی تھی۔ اس میں کمی نہ ہوئی وہ ہنستی تو اسے ایسا لگتا جیسے دل میں بیٹھا کوئی اس کے تعجبے اندر کی طرف کیھنے رہا ہے۔ اور یہ دل میں بیٹھا ہوا چور وہی اس کا

وہ کانٹا تھا کہ ہائے قسمت میں شوہر کا لا بد تھا وہ اس کانٹے کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکی وہ چاہتی تھی کہ سراج کا خیال اسے نہ آئے۔ مگر وہ اسے جتنا ہی بھولنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی وہ یاد آئے جا رہا تھا۔ ایک دن وہ بہت پریشان تھی۔ سراج بُری طرح اس کے خیالات پر چھایا جا رہا تھا۔ وہ اس سے طلاق لینے کی تدبیریں سوچ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے پرنسپل صاحبہ سے اجازت لے کر سیر کی ٹھانی۔ پانچ چھ بڑی لڑکیوں کو ساتھ لیا اور جینا کی طرف چل دی۔ برقعہ اس نے اوڑھ رکھا تھا مگر نقاب اُلٹی ہوئی تھی۔ عصر کے وقت تک لڑکیوں کے ساتھ وہاں رہی۔ پھر واپسی کا ارادہ کیا۔ ٹیکسی کا راستہ دیکھنے لگی۔ وہ سڑک پر منتظر کھڑی تھی کہ لڑکیوں نے ایک ٹیکسی آتے دیکھی۔ دور سے صرف ڈرائیور نظر آ رہا تھا۔ لڑکیوں نے ہاتھ اٹھائے۔ ٹیکسی پاس آ کر رُک گئی۔ پروین لڑکیوں کو لے کر بڑھی۔ مگر اندر سراج بیٹھا نظر آیا۔ "ارے!" جیسے کسی نے تیرا مارا ہو۔ وہ سراج کو دیکھتے ہی پیچھے ہٹی۔ نقاب کو اس نے چہرے پر کھینچ لیا اور لڑکیوں سے کہا "ادھر آؤ" لڑکیاں ہٹ گئیں۔ وہ بھی سمجھ گئیں کہ ٹیکسی خالی نہیں ہے۔ لیکن جب سراج نے دیکھا تو وہ ان سب کی ضرورت سمجھ گیا۔ اس وقت محمود صاحب کے یہاں وہ ان کی دعوت پر جا رہا تھا۔ انھوں نے ہی اسے لانے کیلئے ٹیکسی بھیجی تھی۔ وہ سڑک کے دوسری طرف اُتر پڑا۔ ڈرائیور سے کہا کہ ان سب کو گریس کالج پہنچا دو اور خود اسکو ٹر پر بیٹھ کر محمود صاحب کے دولت کدہ کی طرف روانہ ہو گیا۔

ڈرائیور نے لڑکیوں سے سراج کی بات دہرائی۔ پروین کا اشارہ پا کر سب بیٹھیں۔ ڈرائیور

سب کو کالج کے بورڈنگ پر پہنچایا اس سے کرایہ دریافت کیا گیا تو اس نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بتایا کہ کرایہ محمود صاحب دیں گے۔ اور پھر اس نے اتنا اپنی طرف سے کہہ دیا کہ مجھے جلد وہاں پہنچنا ہے۔ ابھی ابھی سراج صاحب ”موجودہ سماج کی بد حالی“ پر تقریر فرمائیں گے۔ میں بھی سنوں گا۔

بھلا اس سے کوئی پوچھے کہ یہ کہنے کا یہاں کیا موقع تھا۔ مگر وہ جو کسی نے کہا ہے کہ انسان جس بات سے کٹنا چاہتا ہے وہ اسے اور زیادہ جکڑتی ہے۔ پروین کے لئے یہی کیا کم تھا کہ سراج سے اس کی مدد بھیڑ ہو گئی، کجا یہ ڈرائیور اس کی تعریف کر گیا۔ وہ دیر تک جھنجھلائی سی رہی۔ پھر رات کو جمیدہ نے کھانا کھاتے کھاتے کہا ”با جی! وہ لکچر صاحب کتنے اچھے تھے۔ اگر اس وقت اپنی ٹیکسی نہ دیتے تو ہمیں دیر ہو جاتی۔“

پروین کچھ نہ بولی۔ جمیدہ کو لکچر صاحب، وہی کالے کلوٹے سراج صاحب اچھے لگ رہے، تھے۔ پروین کو یاد ہے اس کے والد نے وعظ پلاتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا: ”دراصل سیرت کا نور جب چہرے پر جھلکتا ہے تو کالا آدمی بھی خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ آج پروین نے سنجیدگی سے غور کیا تو اسے فیصلہ کرنا پڑا کہ اس نے سراج صاحب کے معاملے میں بہت غلو سے کام لیا ہے۔ دراصل وہ اتنا کالا نہیں، جیسا کہ پروین کی نظریں اسے دیکھ رہی تھیں۔ خیر یہی کچھ پروین سوچتے سوچتے سو گئی۔“

اس کے بعد پروین نے یہ احتیاط لازم کر لی کہ جب اسے لڑکیوں کو کہیں لے کر جانا ہوتا تو وہ نقاب ڈالے رہتی تاکہ سراج کہیں آتا جاتا دیکھے تو وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ کون آ رہا ہے

یا آ رہی ہے۔ ایک بار وہ اسی احتیاط کے ساتھ ایک فنکشن سے آ رہی تھی۔ لڑکیوں نے تقاضا کیا کہ باجی آزاد پارک راستے میں بن رہا ہے اسے دکھاتی چلو۔ پروین ان کو لے کر وہاں پہنچی تو چند لونڈوں نے شرارت شروع کر دی۔ وہ پہلے تو دوزرے سے بھبتیاں کتے رہے پھر دھیرے دھیرے قریب آنے لگے۔ پروین گھبرا گئی اتنے میں ایک طرف سے آواز آئی۔

”یہ کیا بد تمیزی ہے؟“

یہ ڈانٹ سراج کی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ٹیڈی بوائے ان لڑکیوں خصوصاً بڑے پوش کے پیچھے لگے ہیں۔ اس کی ڈانٹ سن کر لونڈے منتشر ہو گئے اور پھر پروین جھٹ پارک کی حدود سے نکل کر ایک ٹیکسی پر کالج کی طرف بھاگی۔ کالج آ کر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آج سراج نے اسے نہیں پہچانا۔ ایک عورت اور اس کے ساتھ بے بس بچپوں کو نالائق لونڈوں سے بچانے کے لئے اس شریف نے شرافت کا ثبوت دیا۔

”شریف نے شرافت کا ثبوت؟ یہ کیسا فقرہ وہ دل ہی دل میں کہہ گئی اُسے یاد آیا کہ اس کے باپ نے بھی اس سے ملتا جلتا ایک فقرہ کہا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ باپ نے یہ بھی کہا تھا۔ بیٹی! ہو سکتا ہے کہ تیرے کالے سراج کی کوئی اچھی بات تجھ پر نازل آجائے۔“

تو صبر کر۔“

آج اسے سوتے سوتے ایسا محسوس ہوا کہ سراج ہے تو کالا لیکن ناک نقشے کا بڑا نہیں۔ اور یہی سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔

اور پھر ایک دن کا واقعہ ہے۔ واقعہ نہیں حادثہ کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ قلعہ دیکھنے گئی

وہاں چند غنڈوں نے پہلے ”اوپانڈ کی کرن“ کہہ کر اسے پکارا۔ پھر اس ارادے سے بڑھے کہ اسے اغوا کر لیں۔ پروین لڑکیوں کے ساتھ ایک طرف کو بڑھی ادھر کچھ لوگ تھے لیکن غنڈے بیچ میں آگئے۔ اس وقت بھی ایک زوردار ”خردوار“ کی آواز بلند ہوئی اور سراج غنڈوں کے سر پر جا پہنچا۔ لیکن شاید آج غنڈے ”خردوار“ ہی تھے ایک نے کہا ”ابے کیا تیری بہن تھی جو تجھے بُرا لگا؟“ یہ بات سراج کو لگ گئی۔ اس نے پھر ڈانٹا ”بکتا کیا ہے اس ڈانٹ کے ساتھ ہی رامپوری کرے دار چاقو کے کھلنے کی آواز آئی۔ اور جب تک سراج پیچھے ہٹا۔ چاقو اس کی ران پر پڑا۔ وہ زمین پر ہائے ”کہہ کر گرا۔ لوگ دوڑ پڑے۔ غنڈے یہ جا وہ جا فرار ہو گئے۔ پروین لڑکیوں کو لے کر بھاگی اور اس نے کالج میں آکر دم لیا۔ اتفاق سے پرنسپل شاید ویکیہ بھال کے لئے بورڈنگ میں آئی ہوئی تھی۔ انھوں نے حال پوچھا۔ پروین تو کچھ نہ کہہ سکی لڑکیوں نے سارا حال بتایا۔ صبح کو اخبار میں بھی آگیا کہ کس طرح اور نیٹیل کالج کے ہرول عزیز بیٹھچر کو چند غنڈوں نے زخمی کر دیا۔ اخبار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سراج صاحب داخلہ اسپتال ہیں۔ بورڈنگ کی انچارج مس کملادتی نے پرنسپل سے اسپتال جانے کی اور سراج صاحب کی عیادت کے لئے اجازت چاہی تو پرنسپل صاحبہ خود تیار ہو گئیں۔ انھوں نے پروین سے کہا کہ وہ بھی چل سکتی ہے لیکن پروین نے انکار کر دیا اور بہانہ کر دیا کہ وہ سہمی ہوئی ہے۔ پھر چلی جائے گی۔

اسپتال سے واپس آکر پرنسپل صاحبہ اور کملادتی نے سراج صاحب کی تعریفوں کے پُل باندھ دئے۔ ”غیر کے لئے اپنی جان جو کھم میں ڈالتے آج کل سراج ہی کو دیکھا جس وقت



ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا تو کیسا شرمائے تھے اور شرماتے وقت ان کے چہرے پر جو بھولاپن چھایا تو بالکل دیوتا نظر آ رہے تھے۔ خدا ان کو جلد اچھا کر دے۔ ہائے بیچاری اس کی بیوی کیسا کیسا تڑپ رہی ہوگی۔ بھگوان اس کا سہاگ قائم رکھے۔

یہ تعریفی کلمات سُن کر پروین تڑپ گئی۔ وہ سن نہ سکی وہاں سے ہٹ گئی وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ رہی۔ لیٹ کیا رہی نہ جانے کیا سوچ سوچ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ خوب روئی پھر جب اس کا دل ذرا سنبھلا تو اس نے پرنسپل سے اجازت لی کہ وہ بھی ماسٹر صاحب کو دیکھنے جائے گی۔ اسے اجازت تھی ہی۔ اجازت پا کر وہ پہلے گھر گئی۔ وہاں سنا کہ والدہ سراج کو دیکھنے گئی ہیں۔ اس نے بوا کو ساتھ لیا اور اسپتال کو چل دی۔ جس وقت وہ مریض کے مخصوص وارڈ میں پہنچی تو وہاں اس کی والدہ اور اس کی ساس دونوں موجود تھیں۔ اس کی والدہ اس کی ساس سے رور و کر گویا اپنا دل دکھا رہی تھیں اور ساس "قسمت کی بات قسمت کی بات" کہہ رہی تھیں۔ سراج اس وقت سو رہا تھا۔ دونوں نے پروین کو آتا دیکھا تو باہر نکل گئیں۔ پروین نے ساس کو سلام کیا۔ پھر جب پلٹ کر دیکھا کہ دونوں نظر سے اوجھل ہیں تو بوا سے کہا کہ وہ بھی باہر جائے۔ کوئی کُزس بھی قریب نہ تھی وہ مریض کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اگر اس وقت یہ بیدار ہو جائے تو وہ کیا کہے گی اور وہ کیا کہے گا۔

تقریباً پندرہ منٹ کے بعد اس کی ماں اور ساس پھر کمرے میں آئیں تو دونوں حیران رہ گئیں۔ پروین مریض کے پیر پو لے پو لے ہاتھوں سے وبارہی تھی اور آنکھوں سے

آنسو بہا رہی تھی۔ دونوں خواتین یہ دیکھ کر اُلٹے پاؤں واپس ہو گئیں اور انھوں نے بوا کو بھی اپنے پاس بلا لیا جو پروین کے پاس جا رہی تھی۔ دونوں دنیا دیکھے ہوئے تھیں سمجھ گئیں کہ پری آپ سے آپ شیشی میں اتر گئی۔ سمدھنیں آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھیں۔

---

# بہن

رضیہ اور سکینہ بھی تن من سے قرارت کے مقابلے کی تیاری میں مصروف تھیں  
رضیہ سکینہ سے دو برس چھوٹی تھی۔ رضیہ کی عمر ۱۳ سال کی تھی اور سکینہ کی ۱۵ برس کی۔ وہ دونوں  
سگی بہنیں تھیں۔

اس سے پہلے مدرسہ اسلامیہ نسواں میں قرارت کے جو مقابلے ہو چکے تھے۔ اس  
میں سکینہ نے ہمیشہ اول نمبر حاصل کیا اور رضیہ دوم آتی رہی۔ رضیہ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ  
بڑی بہن سکینہ کے مقابلے میں دوم کیوں آئی لیکن اس مرتبہ وہ اس کوشش میں تھی کہ  
سکینہ سے بڑھ جائے۔ اول نمبر خود حاصل کر لے۔ اس شوق نے اس کی کوشش کو  
اتنا تیز کر دیا تھا کہ اسے کھانے پینے اور پہننے اور ہننے کی بھی فکر نہیں رہ گئی تھی۔ سکینہ  
اسے کھانے کے وقت پکڑ لے جاتی اور وہ جبراً دکر ہا دسترخوان پر جاتی۔ سکینہ  
اسے یہ سبھی سمجھاتی کہ وقت بے وقت کھانے پینے سے آواز پر بگڑا اثر پڑتا ہے۔  
اور ہر وقت پڑھتے رہنے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔

سکینہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک دن وہ رضیہ کو قرارت کے روز بتانے

میں مدد دینے لگی تو رضیہ نے جھڑک دیا۔ ”میں نہیں لیتی تمہاری مدد“۔ سکینہ منہ تک کر رہ گئی۔ اسے یاد آیا، ایک دن وہ قرارت کی مشق خود ہی کر رہی تھی — اسے یاد آیا۔ رضیہ دروازے سے لگ کر کھڑی سنتی رہی اور پھرانی سے جا کر کہا۔ ”اگر آپا جان نہ ہوں تو میں اس بار اول آسکتی ہوں“

اس وقت تو سکینہ منہ دی لیکن آج جب رضیہ نے جھڑک دیا تو اسے محسوس ہوا کہ شاید رضیہ حسد کی آگ میں سلگنے لگی ہے۔ اس نے موقع پا کر ایک دن اسے پھر پکڑا اور سمجھانے لگی۔ بھنٹو! تو ہی اول آئے گی۔ اللہ کرے تو ہی اول آئے۔ اب تو میری آواز موٹی ہو گئی ہے میں سوچتی ہوں کہ مقابلے میں شریک نہ ہوں۔

”سچ آپا جان! رضیہ چپک اٹھی۔“

”سچ! بھنٹو، قسم لے لو!“

”اور اگر آپا جان نے ڈانٹا تو؟“

سکینہ اس سوال کے جواب میں رضیہ کو مطمئن نہ کر سکی۔ اور پھر جب رضیہ ہی نے شدہ شدہ ماں سے اور پھر ماں نے قاضی ارشاد احمد صاحب سے کہا کہ سکینہ کا ارادہ یہ ہے تو واقعی انہوں نے سکینہ کو بہت ڈانٹا اور پھر بیوی سے تنہائی میں کہا کہ امام جامع مسجد کا فرزند ارجمند قاری جو اداس شرط پر شادی کرنے پر راضی ہوا ہے کہ سکینہ مقابلے میں اول آئے۔

یہ سن کر ماں نے خاموشی اختیار کر لی اور پھر جب کبھی بات آئی تو ماں نے بڑی

بیٹی کو بند بند لفظوں میں سب کچھ بتا بھی دیا۔

ماں باپ کو سکینہ کی شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ دونوں خوش تھے کہ سکینہ امتحان میں ضرور اڈل آئے گی اور اس کی شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو جائے گی۔ سکینہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی وہ رضیہ کو اکثر اُداس دیکھتی اور کسی خیال میں کھوجاتی موقوف ملتا تو وہ چھوٹی بہن کا حوصلہ بڑھاتی کہ ہمت نہ ہار اب کی بار سب سے زیادہ نمبر تیرے ہی آئیں گے۔

رضیہ یہ سب سکینہ کی بناوٹ سمجھتی اور کبھی کبھی طنز بھی محسوس کرتی۔ وہ ماں باپ کے ڈر سے مقابلہ کی تیاری تو ضرور کر رہی تھی لیکن اسے اُمید نہیں تھی کہ بڑی بہن کے مقابلے میں اول انعام مل سکے گا۔

قصہ مختصر یہ کہ مقابلے کا دن آیا۔ مدرسہ اسلامیہ نسوان میں بڑے انتظامات کئے گئے تھے۔ نمبر دینے والوں میں اندر تین بہترین قاری خواتین تھیں اور پردے کے باہر دو پُرانے بوڑھے قاری۔

مدرسہ اسلامیہ نسوان کا صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے اسٹیج پر کچھ معزز خواتین کے ساتھ وہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں جو مقابلے میں حصہ لینے والی تھیں۔ صدر جلسہ کی مختصر تقریر کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ کسن پتھیوں کی مترنم آواز فضا میں گونجی اور اس گونج میں کلام پاک کے میٹھے بول جمع نے سننے تو جھوم اٹھا۔

قرارت کرنے والی لڑکیاں ایک ایک کر کے آتی رہیں۔ قراءت کر کے اپنی جگہ واپس

جاتی رہیں۔ سننے والے بہترن گوش ہو کر سنتے رہے اور نمبر دینے والے نمبر دیتے رہے۔ اس درمیان محترم صدر صاحبہ نے سکینہ کا نام لیا۔ سکینہ نہایت اطمینان سے اُٹھی۔ مجمع کی نظریں اس پر جم گئیں۔ فضا ساکت ہو گئی! اچانک سکینہ نے ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ کے الفاظ منہ سے نکالے اُن ایک نہایت کریمہ موٹی اور بھدی سی آواز مجمع نے سنی اور پھر سکینہ کو کھانسی کا ٹھنکا جو شروع ہوا تو کھانسی رہی اور سننے والے اپنی نظروں سے گویا کہنے لگے

”ارے اسے کیا ہو گیا ہے“

سکینہ نے کھانسی کر اپنا گلا صاف کیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اب تو مدرسہ اسلامیہ نسواں کے صحن کی فضا میں انتشار پیدا ہو گیا۔ سکینہ کی ماں اپنی جگہ کھڑی ہو گئی، اور اس نے کلیجہ پکڑ لیا۔ ”ہائے میری سچی! سکینہ سورہ اخلاص پڑھ کر اُٹھ گئی۔ اور جس اطمینان سے قرارت کرنے آئی تھی اسی اطمینان کے ساتھ اُٹھ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ رضیہ اس کی ناکامی پر بہت خوش ہوئی اور پھر جب اس کا نام پکارا گیا تو اس نے بڑے حوصلے اور اُمید کے ساتھ قراوت کی، سننے اور دیکھنے والے بڑی عمر کے لوگ تو الگ رہے، نا سمجھ بچیاں اپنی جگہ کھڑی ہو کر رضیہ کو دیکھنے لگیں۔

رضیہ نے بہترین تجویز کے ساتھ قرارت کی۔ اس کے بعد بقیہ لڑکیوں نے حصہ لیا۔ پھر اول انعام کا اعلان کیا گیا تو رضیہ کا سر غرور سے اونچا ہو گیا۔ خدا جانے یہ اس کا طنز تھا یا سعادت مندی، اس نے انعام کا کپ لا کر سکینہ کے آگے رکھ دیا۔ سکینہ نے مسکرا کر رضیہ کا منہ چوم لیا اور اسے مبارکباد دی۔

انعام تقسیم ہونے کے بعد جلسہ برخواست ہوا۔ خواتین خوش خوش اپنے گھروں کو گئیں۔ ہاں ایک عورت ۵ در روٹی ہوئی واپس ہو رہی تھی۔ یہ عورت تھی قاضی ارشاد احمد صاحب کی بیوی ، ناکام سکینہ اور کامیاب رضیہ کی ماں۔ اس کے سینے سے آہ اٹھتی تھی۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہائے اب سکینہ کا بننے گا۔“

قاضی صاحب نے بھی اس خبر کو سنا کر کی طرح سنا وہ بھی دل پکڑ کر رہ گئے۔

شام کو انھیں امام جامع مسجد کا پرچہ ملا کہ بنیا قاری جو اور رضیہ سے شادی کرنے پر تو راضی ہے اور وہ اس کے لئے دو تین برس انتظار بھی کر سکتا ہے لیکن سکینہ سے کسی حال میں شادی کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اگر آپ کو منظور ہو تو تحریر می منظور می دے دیں ورنہ میں کہیں اور اپنے بیٹے کے لئے پیغام دوں۔

اچھے لڑکے آج کل کہاں ملتے ہیں۔ رضیہ کے لئے ہی منظوری دیدی گئی اور سکینہ کے لئے بر تلاش کیا جانے لگا۔ بڑی مشکل سے ایک لڑکا ہاتھ آیا اور ماں باپ نے بڑی حسرت کے ساتھ اسی کے عقد میں سکینہ کو دے دیا۔ سکینہ نے خوشی خوشی قبول کر لیا اور اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ چلتے وقت اس نے اپنا بستہ ماں کو دے کر کہا۔

”اس میں میری کتابیں اور کاپیاں ہیں۔ انھیں رکھ لیجئے۔ دو برس کے بعد رضیہ درجہ

مہتمم میں پہنچ جائے گی تب اسے دیدیجئے گا۔ یہ میری طرف سے اس کے لئے تحفہ ہے۔“

ماں نے بستہ رکھ لیا۔ سکینہ گھر والی ہو گئی۔ دو برس کے بعد جب رضیہ درجہ مہتمم میں آئی

تو بہن کا بستہ اُسے ملا۔ اس نے بڑے شوق سے کھولا۔ کتابوں اور کاپیوں پر نئی جلدیں

بندھی ہوئی تھیں۔ رضیہ بہت خوش ہوئی۔ شام کو اس نے سوچا کہ آپا جان کی کاپیوں سے لکھے ہوئے اوراق الگ کر دینا چاہئے تاکہ اُستانی صاحبہ ڈانٹیں نہ۔

وہ ایک ایک ورق بڑی احتیاط سے پھاڑ پھاڑ کر نکال رہی تھی۔ اس طرح کئی کاپیاں اس نے سادہ کر لیں۔ اچانک ایک کاپی کے ایک ورق پر اس کی نظر میں جم گئیں۔ اس نے پڑھا۔ تحریر پڑھا :-

”رضیہ کو یقین نہیں آتا وہ میرے ہوتے ہوئے اول آئے گی۔ میرا بھی خیال ہے کہ وہ میرے مقابلے میں زیادہ نمبر حاصل نہ کر سکے گی تو کیا میں خود اول انعام لے کر اپنی پیاری رضیہ کو اُداس کر دوں۔ نہیں۔ نہیں! میں ہرگز اُسے اُداس نہیں دیکھ سکتی۔ تو مجھے کیا کرنا چاہئے ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سا سیندر پھانک لینا چاہئے تاکہ گلا بیٹھ جائے اور بروقت قرارت اگر میں چاہوں بھی تو اچھی قرارت نہ کر سکوں :-

یہ تحریر پڑھ کر رضیہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی ماں باپ دوڑے۔ بیٹی کے پاس کاپی کھلی ہوئی پڑی تھی۔ انھوں نے بھی وہ تحریر پڑھی ان کی آنکھوں سے گنگنا جتنا بہہ پڑی۔ اور وہ رضیہ کو ہوش میں لانے کی تدبیروں کرنے لگے۔



# موم کی گڑیاں

”امی جان! امی جان! سلمیٰ آرہی ہے! زرینہ ہانپ رہی تھی۔“ تم جلدی سے جا کر  
 کپڑے بدل لو امی جان! عید والا جوڑا پہننا، امی جان!“  
 امی برتن دھورہی تھیں۔ انھوں نے زرینہ کی طرف دیکھا۔ انھیں ایسا محسوس  
 ہوا جیسے زرینہ کے لئے زلزلہ آگیا ہو۔

”بڑی خوشی کی بات ہے بیٹی! اچھا تو میں یہ برتن ٹھکانے سے رکھ دوں۔“

”نہ آپ تو جلدی سے اچھا جوڑا پہن لیجئے۔ یہ برتن میں دھوئے ڈالتی ہوں۔“

امی جان کو منہسی آگئی۔ پھر پوچھا ”بیٹی سُن تو! میں جوڑا کیوں پہن لوں، کیا کوئی

مجھے دیکھنے آ رہا ہے؟“

”اوسنہ، تم تو ہر بات میں بحث کرنے لگتی ہو امی! دیکھو تو تمہارے کپڑے کیسے میلے

ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھ گئی تو کیا کہے گی؟“

”کہے گی کیا بیٹی، سلمیٰ تیری سہیلی ہے، وہی تو آرہی ہے، اس کے سامنے تکلف کیا۔

میری بھی تو وہ بیٹی ہوئی!“

”ہاں ہوگی سب، تم برتن چھوڑ دو بس اب وہ آیا ہی چاہتی ہے۔“ زبردستی زرینہ نے برتن کھینچ لئے اور کھنگال کر ایک طرف رکھ دئیے۔

امی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ زرینہ انھیں حکم دے رہی ہے یا التجا کر رہی ہے۔ وہ کپڑے بدلنے چلی گئیں۔ وہاں آپ ہی آپ کہہ رہی تھیں۔ ”معلوم نہیں زرینہ کو کیا ہو گیا ہے کیسی بھولی بھالی تھی۔ لیکن جب سے کالج میں داخلہ لیا ہے، چٹک مٹک سے رہنے لگی ہے۔ بالکل ہی تو بدل گئی صرف تین چار مہینوں میں۔ کل ہی تو میں سمجھا رہی تھی کہ بھنٹو! ہم کوئی رئیس نہیں ہیں۔ جو مل جایا کرے پہن لیا کرو، جو اب دیا کہ نہ، چاہے کھانے کو نہ دو مگر جوڑا بھڑک دار ہو، وہاں سب بنی ٹھنی رہتی ہیں۔ امی جان! کیسا دکھاوا لگیا ہے، امی جان کی پتی میں۔“

امی جان نے ایک صاف سا جوڑا پہن لیا۔ سادہ سا جیسی ایک گرمی ہوئی ہے اور پہنا کرتی ہے پھر کچھ سوچ کر زیر لب بڑبڑانے لگیں۔

”اس دن کیسا ترط سے جواب دیا اس نے“ ماں، اگر ہمیں عزت قائم رکھنا ہے تو اوپر اٹھنا ہوگا! پھر نہ جانے کس شاعر کا شعر پڑھا مطلب یہ تھا کہ ہمیں زمین کی پستی کی طرف نہیں دیکھنا چاہئے۔ آسمان کی بلندی کی طرف نظر رکھنا چاہئے۔ دیوانی یہ نہیں جانتی کہ جو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، زمین میں ٹھوکریں کھاتا ہے۔“

امی کو غصہ بھی آ رہا تھا اور مہنسی بھی انھوں نے آج طے کر لیا تھا کہ وہ زرینہ کو سبق دیکر رہیں گی مگر اس طرح کہ اُسے بُرا نہ لگے۔

آج سلمی اکیلی نہ تھی۔ اس کے ساتھ اس کی امی بھی آئیں۔ انھیں دیکھ کر زرینہ خوشی

کے مارے پھولی نہ سمانی۔ کتنی ہنس مکھ ہیں سلمیٰ کی امی کتنا اچھا ہے ان کا ڈرہیں چہرے کا کلا تو ایسا بنایا ہے کہ بس واہ ہی وا۔ اور کلی دار پیجامہ میں کیسی عمدہ چٹٹیں ہیں۔ اور سلمیٰ — اُف میرے اللہ! وہ پوری سلمہ ستارہ بن گئی ہے۔“

”اے آنٹی! آج تو بہت دنوں بعد آپ کو ہماری یاد آئی۔“ زرینہ نے دل ہی دل میں اپنے لفظوں کی داد دی۔ اس کی امی ابھی باہر نہیں آئی تھیں۔ زرینہ خوشی سے پکاری۔ ”امی جان! آواز کے ساتھ ہی اس کی امی جان باہر آتی دکھائی دیں۔ اور زرینہ کا کھلا ہوا چہرہ یکدم مرجھا گیا۔ اس نے برا سامنہ بنایا۔“

”کیسا کیسا کہہ دیا تھا اور اب بن ٹھن کر آئی ہیں۔ توبہ توبہ وہی سفید سلوار، وہی پیرانا چہرہ اور موٹا سا دوپٹہ۔ زرینہ نے اپنی آن بچانے کی خاطر سلمیٰ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں کھینچ لگے۔ اس کی امی سلمیٰ کی ماں سے بڑے تپاک سے ملیں۔ اُدھے گھنٹے ہی میں دونوں ایسا گھل مل کر باتیں کرنے لگیں جیسے ان کے درمیان کوئی تکلف ہی نہ ہو، اور جیسے وہ ایک جان دو قالب ہوں۔ کبھی تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو جاتیں اور کبھی اس طرح ہنستیں کہ ان کی ہنسی کی آواز زرینہ کے کمرے میں سنائی دیتی۔ اس آواز سے زرینہ نے محسوس کیا کہ اتنی یگانگت اور بے تکلفی چارہ مینے میں سلمیٰ سے اس کی نہ ہو سکی۔ اس کا خیال تھا کہ امی جان احساہ کتری میں مبتلا ہوں گی اور سلمیٰ بھانپ لے گی۔ اسی لئے وہ ادھر سے گھسیٹ لائی تھی اور جھوم جھوم کر باتیں کر رہی تھی۔“

”کل تو نے کلا کو دیکھا تھا کیسی گڑ یا سی بن کر آئی تھی اسکول میں۔ سب ہی تو اسے دیکھ

رہے تھے۔ دونوں ہنسنے لگیں۔ اس وقت زرینہ کی حسرت بھری نگاہیں سلمیٰ کی پہلی اسکرٹ پر جم کر رہ گئیں اور وہ اپنی آہ کو دبانے لگی۔ کب سے وہ آبا ماں سے اس کے لئے ضد کر رہی تھی۔ مگر یہاں بس وہی پیسہ بیچ میں آجاتا تھا۔ آج میرے پاس بھی اسکرٹ ہوتی تو—! اس نے دل ہی دل میں اپنی غریبی محسوس کی اور اُداس ہو گئی۔

کیا تین ہی کمرے ہیں تمہارے پاس؟ سلمیٰ پوچھ بیٹھی۔ زرینہ اور زیادہ اُداس ہو گئی۔ ایسے پوچھ رہی ہے جیسے پہلے پہل آئی ہو۔ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ ”اور جو اباً بولی“ سلمیٰ! کیا یہ وہی اسکرٹ ہے نا جو تو نے اس دن فلنگشن میں پہنا تھا اور اس دن بھی جب اسکول میں اندراجی پڑھاری تھیں۔ اس طرح گویا اس نے تین کروں والی بات، بات نہیں پوشیدہ طنز کا جواب دے دیا۔ مطلب یہ کہ تو بھی تو ایک اسکرٹ مہینوں سے پہن رہی ہے۔ پھر میرے پاس تین ہی کمرے ہیں تو کیا ہوا۔

لیکن اس کے جواب میں جب سلمیٰ نے بتایا کہ اس کے ابا جان نے کانپور سے قمیص چوڑی دار پا جامے کا کپڑا بھیجا ہے تو آئے گی تو دکھاؤں گی، تو زرینہ دل مسوس کر رہ گئی۔ اس نے پوچھا، کس رنگ کا ہے؟ میرے خالو جان نے بمبئی سے بھیجا تھا مگر اس کا رنگ مجھے پسند نہیں تھا۔ میں نے پھوپھی کی لڑکی سعیدہ کو دے دیا۔

اس کا جواب سلمیٰ نے کچھ نہیں دیا۔ پھر کہنے لگی کتنی گرمی ہے یہاں۔ ہمارا گھر خوب کھلا ہے۔ ہوا خوب آتی ہے۔ اس بند گھر میں مجھ سے رہنا جائے۔ اور اس کے جواب میں زرینہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ”خوشی میں یہ تو بھول ہی گئی کہ چائے کے بناؤں چلوں دراتمی

جان کے پاس بیٹھو، میں ابھی لاتی ہوں۔

”تم بے کار تکلف کر رہی ہو“ کہتی ہوئی سلمی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر دونوں دنگ رہ گئیں کس ٹھاٹ سے دونوں کی باتیں ہو رہی تھیں۔ زمین پر بچھے ہوئے گدے پر بیٹھی تھیں۔ سلمی نے پہنچتے ہی ماں پر آوازہ کس ہی دیا۔

”ممتی صاحب! آج تو پوری انڈین بن گئی ہو!“

”بن کیا گئے ہمیں ہی ہندوستانی۔ کیوں بہن جی ٹھیک ہے نا!“ سلمی کی امی نے ایک سانس میں اس سے اور زرینہ کی ماں سے کہا۔

”اور کیا“ زرینہ کی امی کہنے لگیں۔ ”ہندوستانی تو سہی ہیں۔ میں تو زرینہ کو سمجھاتی ہوں کہ اپنی آن کبھی نہیں کھونا چاہئے۔ جھوٹی شان کبھی نہیں دکھانا چاہئے مگر وہ توفیشن کے پیچھے دیوانی ہوئی جا رہی ہے!“

زرینہ کا چہرہ یکدم اتر گیا۔ چار بنانے کے بہانے وہ باورچی خانے کی طرف بھاگ گئی مگر اس کے کان اسی طرف تھے۔

”ہائے امی جان اب تو گھر کا پورا پورا کھول دینے پر تل گئی ہیں۔ کیا کیا کہے جا رہی ہیں اس چھوٹے سے گھر کی تعریف کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں کتنا کم کرائے پر مل گیا ہے۔ لو اب جان کی تنخواہ بھی بتا دی۔ آخر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے۔ گھر کا کام وہ خود اور زرینہ دونوں مل کر کر لیتی ہیں۔“

زرینہ کا سر گھوم گیا۔ اُسے یاد آیا۔ اس نے سلمی کے سامنے کیسی کیسی ڈینگیں ماری تھیں۔

سبھی لڑکیاں بھی جتنی ہیں مگر کسی کی ماں کا ہے کو اس طرح اپنا بھانڈا اچھوڑتی ہے۔ زریںہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ امی یہ سب دکھڑا کیوں لے بیٹھیں۔ بھولے پن کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ سلمیٰ کی ماں نے یہ کب پوچھا تھا، جس کے جواب میں یہ کہو اس شروع کر دی۔ چار بنا کر اس نے ٹرے میں رکھی۔ ٹرے اٹھا کر کمرے میں آئی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پیر من من بھر کے ہو گئے۔ وہ سلمیٰ کی طرف بڑھی۔ سلمیٰ کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ سوچنے لگی۔ یہ کیوں ادا اس ہو رہی ہے اچھا یہ بات ہے۔ اس کی ممتی اب اپنی رام کہانی سنار ہی تھیں :-

”اللہ کا شکر ہے۔ دونوں وقت آرام سے دو روٹیاں مل جاتی ہیں، لیکن وہ دن میں اب تک نہیں بھولی ہوں۔ جب اپنے ہاتھوں سے دوسرے لوگوں کے کپڑے سیتی تھی تب ہی ایک وقت کھانے کو ملتا تھا، سلمیٰ کی ماں کی آواز دکھ بھرے دنوں کی یاد سے بھرا گئی اور سلمیٰ نے بُرا سا منہ بنایا۔

زریںہ کی امی نے کہا ”لیجئے، اب آپ ہی اس پگلی کو سمجھائیے جب آپ آ رہی تھیں اس وقت میں برتن دھو رہی تھی۔ یہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ عید کا جوڑا پہن لو۔“  
دونوں بزرگ عورتیں ہنس پڑیں۔ زریںہ بید شرمندہ ہوئی، لجائی ہوئی سلمیٰ بھی بیٹھیں تھی۔ سلمیٰ کی ممتی نے کہا :-

”اؤ بیٹی زریںہ! کیا اچھا نام ہے تمہارا، اور کیسی اچھی مومت۔“ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ ”بڑی اچھی بھنوتو ہے۔ پھر اس طرح سمجھانے لگیں۔ بیٹی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں

دکھاوا کرنے سے خوشی نہیں ہوتی بیٹی! دکھاوا کرنے والے ایک طرف جھوٹ بولتے ہیں -  
 دوسری طرف ان کے جھوٹ کا پول کھل کر رہتا ہے۔ تب ان کو خواہ مخواہ شرمندہ ہونا  
 پڑتا ہے۔“

زرینہ نے نیچی نظریں کئے ہوئے سلمیٰ کو دیکھا وہ بھی جھینپی ہوئی اسے دیکھ رہی  
 تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ دراصل دونوں کو ایک نہایت قیمتی نئے  
 مل گئی تھی۔ دونوں کے ذہنوں میں ایک بیداری پیدا ہو گئی تھی۔ ایسی بیداری جس  
 میں بناوٹ نہیں اور نہ اس میں فیشن کی جھوٹی چمک تھی۔“

---

## نقلی روزہ

میں ایک ماڈرن خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرے والد محترم آئی۔سی۔ ایس ہیں۔ اور اب عرصہ سے گوشہ نشین ہیں۔ میری والدہ ایک رئیس خاندان سے تھیں۔ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھیں۔ لیکن نہایت خوبصورت اور مالدار گھرانے کی چشم و چراغ تھیں۔ میرے والد صاحب نے (وہ خود بیان کرتے ہیں) ان سے شادی محض ان کے حسن اور مال کی وجہ سے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور ہم سب سات بھائی بہنیں ہیں۔ سب سے بڑی میں ہوں والد صاحب نے ہمیں اعلیٰ تعلیم دلائی اور اب ہم سب اپنے اپنے گھر خوش ہیں۔ والدہ مرحومہ (خدا انھیں کر وٹ کر وٹ چین نصیب فرمائے) اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہمارے خاندان میں صرف والدہ مرحومہ ہی ایسی تھیں جو روزہ نماز کی پابند تھیں والد صاحب آئی۔سی۔ ایس تھے۔ ظاہر ہے ان کو دین سے کیا تعلق ہو سکتا تھا۔ پھر ہم سب نے مغربی تعلیم پائی۔ مغربی طرز کی تربیت حاصل کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب والدہ مرحومہ کو روزہ نماز اور صدقہ و خیرات کرتے دیکھتے تو مذاق کرتے۔ ہم سب بھائی بہنوں کے الفاظ یہ ہوتے تھے۔



”امی اس سے کیا فائدہ۔ روزہ رکھ کر دن بھر بھوکے مرنا یہ کیا عقلمندی ہے۔ آپ نمازوں میں جو ٹائم برباد کرتی ہیں۔ اتنی دیر میں کوئی تفریح کر لیجئے۔ یہ جو سنڈے منڈے فقیروں کو خیرات دیتی ہیں تو ان کے بدلے ہمارے فنکشنوں میں چندہ دیجئے تو نام ہو۔

اور تو بے حد ہے والد صاحب تو۔ اکثر ہم نے دیکھا امی نماز پڑ رہی ہوتیں اور وہ جانماز کھینچ لیتے تھے۔ اب جبکہ اللہ نے میری آنکھیں کھولیں اور میں دین کو کچھ سمجھتی ہوں تو اپنی اور گھر کی بے ادبیوں پر لرز جاتی ہوں۔ تو بہ۔!

اچھا تو اس تمہید کے بعد میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں دین کی طرف کس طرح مڑی اس وقت میری عمر بھی بائیس برس کی تھی، ایم اے کر چکی تھی اور اعزازی طور پر ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ اس اسکول میں مس جمیلہ ایک اور معلمہ صاحبہ تشریف لائیں یہ میری ہم عمر تھیں۔ نہایت بھولا بھولا چہرہ ہنس مکھ سادے کپڑوں میں وہی وہی تھیں۔ ہم سب سے الگ۔ تنہا میرا دل بجانے کیوں ان کی طرف کھینچنے لگا۔ رئیس گھرانے کی تو میں تھیں ہی کسی سے سہیلا کرنے کے لئے دس بیس روپیہ خرچ کر ڈالنا میرے لئے معمولی بات تھی۔

میں نے اسی وقت ٹی پارٹی جمادی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب جمیلہ صاحبہ نے فرمایا کہ بہن! میں تو روزے سے ہوں۔“

ان کا روزہ اس وقت مجھے کھلا۔ اگر میں ذرا مہذب اور شائستہ نہ ہوتی تو اس وقت خدا جانے کیا کہہ اور کر ڈالتی۔ پھر بھی میری زبان سے نکل گیا۔ ”زجانے لوگ روزہ رکھنے کی حماقت کیوں کرتے ہیں؟“

”حماقت! مس جمیلہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟“  
 ”مسلمان تو ہوں۔“ میں نے جواب دیا۔

”تو بہن روزہ فرض ہے اللہ کا حکم ہے۔ روزہ رکھو۔“  
 ”کیوں رکھیں؟“ پھر میری زبان سے جھنجھلاہٹ کے ساتھ نکلا۔  
 ”عرض کیا نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔“

”فائدہ؟ میں نے ایک سبب اٹھالیا۔ دوسری طرف شمیم نے کہنی ماری۔ ہٹاؤ  
 بھی انھیں منہ تکلنے دو۔ آؤ ہم سب کھا لیں نہیں؟“ اس درمیان مس جمیلہ کہہ رہی تھیں۔  
 ”بہن! فائدے تو بہت ہیں۔ لیکن میں اس وقت ان کی فہرست گننا نہیں چاہتی  
 خود رکھ کر کیوں نہ دیکھ لیجئے۔ کیا فائدہ ہے روزہ رکھنے سے؟“  
 ”بہت اچھا سرکار۔ ایک طرف سے اختر چہکی مس جمیلہ کے آنے کا وہ پہلا دن تھا۔  
 خیر ہم نے زیادہ بے تکلفی کا اظہار نہیں کیا۔ ہم سب کھاپی رہے تھے مس جمیلہ اٹھ کر  
 ظہر کی نماز پڑھنے لگیں۔“

”کس قدر خشک زندگی ہے اس کی۔“

”بے شک! انگریزی تعلیم حاصل کر کے بھی ملانی ہی رہی۔“

”ارے اسے کوئی وارٹھی والا ملا پسند آ گیا ہوگا۔ تبھی تو!“

”کسی ایسے ویسے گھرانے کی معلوم ہوتی ہے۔“

یہ اور ایسی ہی باتیں ہم سب کرتی رہیں۔ ادھر ہم سب فارغ ہوئے ادھر مس جمیلہ

جن کو اللہ سے واسطہ پڑا تھا۔ نماز سے نبٹ کر اٹھیں۔ پھر ہم نے زیادہ باتیں نہیں کیں انٹروں ختم ہو چکا تھا۔ اپنے اپنے درجوں میں چلی گئیں۔

ٹائم پورا کرنے کے بعد مس جمیلہ بڑے تپاک سے ملیں میں کبھی کبھی سی رہی اوپری دل سے لٹو پتو کر کے گھر چلی آئی مجھے قلق اپنے بیس روپوں کا تھا کہ بے کار ہو گئے۔

رات کو جب سونے لیٹی تو وہ بیس روپے یاد آتے رہے۔ ہم سب کی نفریحیں اور مس جمیلہ کی وہ خشک زندگی اور پھر ایک ایک کر کے وہ ساری باتیں بھی جو ہم سب نے انٹروں میں کی تھیں۔ ساتھ ہی مس جمیلہ کا وہ جملہ کہ روزہ رکھ کر خود دیکھ لیجئے کیا فائدہ ہوتا ہے۔

”اونہ دیکھتی تو ہوں امی کو۔ ہلکان ہو جاتی ہیں۔ میں بھوکوں کیوں مروں! میں سوچتے سوچتے جھنجھلا گئی۔ میں نے ایک طرف کروٹ لے لی۔ لیکن ہاتے وہ بیس روپے، نہ جانے کیوں کھل رہے تھے، میں نے پارٹیوں میں سو سو خرچ کئے۔ لیکن وہ کبھی زیاد آئے اس لئے کہ وہ نیگ سے لگے تھے نا! اور بیس روپے ضائع ہو گئے۔“

”بہن! روزہ رکھ کر دیکھ لو نہ! ایسا معلوم ہوا جیسے مس جمیلہ کی آواز آئی میں نے مرط کر دیکھا کوئی نہ تھا۔ میرے کان بج رہے تھے۔ میں نے بُرا سامنہ بنایا“ اس جمیلہ کو ٹھیک کرنا ہے میں نے دل میں کہا۔ ”کل جھوٹ موٹ کہہ دوں گی کہ روزے سے ہوں، اختر پروین لیٹے وغیرہ تو میرا پارٹ سمجھ جائیں گی۔ انھیں کُلف بھی آئے گا لیکن اس جمیلہ سے پوچھنا ہے کہ لے دیکھ کیا فائدہ ہے۔“

میں لیٹے لیٹے مسکرانے لگی کچھ سوچ کر اٹھی کھنکھار کر امی کے کمرے میں گئی۔ وہ نماز

پڑھ رہی تھیں۔ سلام پھیر کر مجھے دیکھا۔ پوچھنے لگیں۔ ”کیا بات ہے؟“  
 ”امی روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں؟“ میں نے سوال کیا میرا خیال تھا کہ تھیووری امی سے

پوچھ لوں تاکہ جملہ کو چڑانے کے لئے پورا پارٹ ادا کر سکوں۔

”کرتے کیا ہیں بیٹی! امی نے بتانا شروع کیا۔ صبح ہونے سے پہلے سحری کھاتے ہیں  
 پھر دن بھر کچھ نہیں کھاتے پیتے بُری باتیں نہیں کرتے۔ کوئی کچھ کہے تو صبر کرتے ہیں۔  
 غریبوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ بس یہی روزہ ہے۔“

”شب بخیر! کہہ کر میں چلی گئی۔ یہ سب تو کھاپنی کر بھی ہو سکتا ہے۔ میں دل ہی دل میں  
 دوسرے دن کے لئے کہانی سوچنے اور ڈائی لاگ تیار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد امی  
 میرے کمرے میں آئیں۔ پوچھنے لگیں بیٹی! کیا کل روزہ رکھنے کا خیال ہے۔ اللہ تجھ کو  
 ہمت دے۔“

میں نے رواداری میں جواب دیا ”جی“ اور وہ خوش ہو کر چلی گئیں اور میں مسکرا دی  
 اور پھر نہ جانے کب سو گئی۔

”ایک ناکدہ تو یہی ہوا کہ صبح سے کچھ نہ کر سکی“ میں چونک پڑی۔

”بیٹی! کیا خواب دیکھ رہی ہو۔ اٹھو سحری کھا لو، امی مجھے جگا رہی تھیں۔“

”کیوں کھا لوں؟“

”سحری کا وقت ہو گیا ہے بیٹی!“

”تو میں کیا کروں؟“

”تم نے کہا تھا بیٹی، روزہ رکھنے کو“

”چھوڑے بھی۔ میں کہاں روزہ رکھنے کی“

”بیٹی! میں نے تیرے لئے سید کامرہ بنایا ہے۔ تو نے کہا تھا۔ تو کھالے سحری“

”سید کامرہ! میں جھٹ اٹھ بیٹی میں نے محسوس کیا۔ اس دن امی نہیں اس وقت رات

میں امی بہت خوش تھیں۔ واری جا رہی تھیں مجھ پر۔ اللہ تجھ کو تمہت دے، کیسی نیک ہے

میری سچی! اللہ تجھے نیکی عطا فرمائے!“

”چھوڑے امی یہ باتیں، مجھے مرہہ دیجئے۔“

”لے بیٹی! پہلے مچھلی کے کباب کھا لے۔ میں نے رات میں جان مار کر تیار کئے ہیں تیرے

لئے“

”میرے لئے امی! میں مسکرا دی اور کھانے لگی“

”ابا ابا، بڑے مزے کے ہیں“

اور پھر اس رات امی نے بڑی عجیب عجیب نعمتیں کھلائیں۔ کھاپنی چکی تو چاہا کہ پھر سو جاؤ

لیکن امی نے کہا ”بیٹی! روزہ رکھا ہے تو اب ذرا دیر میں اذان ہونے والی ہے۔ وضو کر کے

نماز پڑھ لے، پھر سو جانا“

جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ کہہ دوں کہ ”امی چھوڑے“ مگر انگریزی تعلیم حاصل کر کے بہر حال

تہذیب کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ امی نے نعمتیں کھلائی تھیں، ان کا احسان تھا۔“

خدا کو نہیں، امی کو خوش کرنے کے لئے نماز پڑھ لی اور پڑھ کیا لی، بس اٹھ بیٹی لی۔ آتی ہی

کب تھی مجھے نماز۔ اس کے بعد پھر سو گئی۔

سو کر اٹھی تو دل نے چاہا کہ چار پی لوں مگر امی جو تھیں گھر میں۔ والد صاحب نے جن کو میں پایا کہتی تھی، بلایا بھی کہ پروین! چائے نہیں پیو گی؟  
”میں روزے سے ہوں“

میرا یہ کہنا کہ پاپا نے اور میرے بھائی بہنوں نے ایک زوردار تہقہہ بلند کیا میں بھی ہنسنے لگی۔

”آپاجان! کیا کالج میں کوئی ڈرامہ ہے اور تم اس میں روزہ دار کا پارٹ کرو گی؟“ میری بہن انور نے پوچھا اور پھر سب ہنس پڑے۔

غرض کہ اس طرح سب نے مجھے خوب بنایا۔ سچ جو پوچھو۔ روزے کی میری نیت بھی نہ تھی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ امی کے دل کو دکھ نہ ہو۔ میں ہوٹل پر چار پی لوں گی۔ بس اسی لئے اڑی رہی۔

”تو کیا واقعی تو روزے سے ہے پاپا نے پوچھا۔“

”بالکل! میں مسکرانے لگی۔“

آخر ماں پہ گئی نا! پاپا نے کہا اور چلے پینے لگے۔

میں نے دل میں کہا کہ یہ کیا آنت مول لے لی۔ کالج کا وقت آیا تو پاپا نے کہا ”چل میں اپنی کار پر تجھے چھوڑ آؤں۔“ میں کار پر ان کے ساتھ چلی۔ راستے میں پاپا بولے ”ہوٹل میں کچھ کھانی لے۔“ میں نے انکار کر دیا۔ انکار اس لئے نہیں کہ میں واقعی روزے سے ہوں۔

بلکہ اس لئے کہ جب پاپا سے کہہ دیا ہے تو آن رہ جائے۔ انٹرول تک تو بھوک لگتی نہیں ہے انٹرول میں کھاپی لوں گی۔

انٹرول تک واقعی بھوک پیاس نہ لگی۔ خوب تر مال کھلا دیا تھا اتنی نے انٹرول میں پیٹ کچھ مانگنے لگا اور عمر میں پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ پیٹ کی اس مانگ کا نام بھوک ہے۔ آخر نے پوچھا "اس وقت ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہو غیریت ہے"

"آج میں روزے سے ہوں"

وہی تہمتہ جو بگھر میں بلند ہوا تھا وہی یہاں بھی بلند ہوا۔ سمجھ تو سب گئی تھیں۔ پروین ڈرامہ کر رہی ہے لیکن مس جمیلہ نے کہا "جزاک اللہ!" اور پھر جب وہ نماز پڑھنے چلیں تو کہنے لگیں "بہن روزہ رکھا ہے تو اُد نماز بھی پڑھ لو"

نہ جانے میں کیوں نماز پڑھنے چلی گئی۔ میری اس حرکت سے سب کا خیال تھا کہ اب مس جمیلہ کی درگت ہونے والی ہے۔ مگر میں اٹھک بیٹھک کر کے چکی چلی آئی۔ بات یہ تھی کہ اب مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے اختر، شمیم اور شائستہ کو اشارہ کیا اور سب کو ساتھ لے کر چلی۔ مس جمیلہ دیکھتی ہی رہ گئیں۔ ارادہ تھا کہ جمیلہ صاحبہ کی عدم موجودگی میں کچھ کھاپی لوں راستے میں آواز سنی "بھگوان بھلا کرے" دیکھا تو عمر میں پہلی بار دل میں نرمی محسوس ہوئی۔ ایک بھکارن اپنے بچے کو گود میں لئے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھی۔ میرا ہاتھ غیر شعوری طور پر منی بیگ پر جا پڑا۔ میں نے کھولا اور جو ہاتھ میں آیا نکال کر اس عورت کو دے دیا۔ میری سہیلیاں حیرت زدہ ہو کر رہ گئیں۔

”یہ کیا کیا تم نے! تو کیا اس وقت صرف چار پڑھا لو گی؟“  
 چار بھی نہیں۔“

”کیوں؟“

”آج میرا روزہ ہے۔“

”اس سے فائدہ ہے؟“

”میں کچھ نہیں جانتی۔“

”تو کیا خود بھوکے رہو گی؟“

”ہاں!“

”کیوں؟“

”ایک بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لئے؟“

اور میں پلٹ پڑی۔ سہیلیاں جو سب کی سب ٹیچر تھیں۔ فنگس ہو کر رہ گئیں۔

”واہ ہم تو سمجھے تھے، یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، مگر.....“

”مگر اب میں سچ سچ روزے سے ہوں۔“

میں واپس آگئی۔ مس جمیل نے پوچھا، ”کہاں گئی تھیں اور اتنی جلد کیوں واپس آگئیں؟“

”انٹر ختم ہونے والا ہے جو۔“

اور واقعی مجھے ایک سوال کا جواب مل گیا۔ آپ سے آپ مل گیا۔ ”روزہ بھوکوں سے ہمدردی

کے لئے رکھا جاتا ہے میری زبان سے آواز کے ساتھ نکل گیا۔“



”بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے۔“ یہ سب جمیلہ کی آواز تھی، اب سوچتی ہوں کہ میں نے دوپہر کے بعد روزے کی نیت کی تھی۔ روزہ تو وہ ہوا نہ ہوگا، لیکن وہ روزہ میرا روزوں کی تہید بن گیا۔ ارادہ کر لیا تو نہ جانے کہاں سے صبر آگیا۔ ہر روز کی دروغ آمیز گفتگو سے میری ٹیچر دوست اس دن محروم رہ گئیں۔

شدہ شدہ یہ خبر پرنسپل صاحبہ کو ہوئی۔ منسٹر کلا دتی ایک پڑانی اور وینڈار خاتون تھیں انھوں نے مجھے بلایا۔ حال پوچھا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ ہاں میں روزے سے ہوں وہ سُن کر بہت خوش ہوئیں۔ بولیں۔

”مس پروین، مذہب کے بغیر کوئی انسان، انسان نہیں بن سکتا۔ وہ بھگوان کا بھتے ہی ہے جو انسان کو بُرائیوں سے روک سکتا ہے اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ اسلام نے انسانیت کو سنوارنے کے لئے بہترین اصول دئے ہیں۔“

پرنسپل صاحبہ نے پہلی بار مجھ سے اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ میں نے اس دن سنجیدہ اور غیر سنجیدہ اعزاز میں نمایاں فرق محسوس کیا، لیکن شام ہوتے ہوتے میرا بُرا حال ہو گیا۔

عصر کے وقت گھر پہنچی تو نہ جانے بُوآنے کیا کہا۔ اور میں ان پر برس پڑی۔ امی دوڑ کر آئیں، بیٹی! یہ صبر کا منہ ہے اور صبر کے معنی ہیں بُری باتوں، غصہ اور جھجھوٹ کے مقابلے پر نیکی پر جھے رہنا۔

”صبر کے معنی تو مجبوری کے ہیں امی!“

”بیٹی! یہ اردو میں غلط معنی میں بولنے لگے ہیں۔ ورنہ عربی میں یہی ہیں جو میں نے کہئے“ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ امی محض اُن پڑھ نہیں ہیں اور میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی۔ پھر شام تک مجھے بات بات پر عرصہ آیا۔ لیکن میں نے ضبط سے کام لیا۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر کا انسان جو سو یا پڑا تھا، جاگ رہا ہے۔

مغرب کے وقت جب میں نے روزہ کھولا۔ تو وہ پہلا گھونٹ جو میں نے پیا، اس کی لذت عمر بھر نہ بھولوں گی جنت کی کیفیتوں کا نام میں نے سنا تھا کہ تو تسنیم کا مزہ شاید ایسا ہی ہو۔ میں نے امی سے پہلے گھونٹ کی لذت اور پھر اس سے جو شکستگی حاصل ہوئی کتنی اس کا حال کہا تو بولیں۔

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔“ مجھے حضورؐ کے پورے الفاظ تو یاد نہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ روزہ دار کو دو ایسی نعمتیں حاصل ہوں گی کہ ان سے بڑھ کر دوسری نعمتیں نہیں ہو سکتیں۔ اس دنیا میں روزہ کھولنے کے وقت پہلے گھونٹ کی لذت اور آخرت میں اللہ کا دیدار۔

”پت ہے امی! میری زبان سے نکلا تھا۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اب میں (دعویٰ تو نہیں) لیکن فخر ضرور ہے کہ میں واقعی ایک مسلمان ہوں اور کیا عرض کروں بڑی لمبی داستان ہے پھر زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا پاپا (والد صاحب) اور میرے بھائی اور میری بہنیں سب اسلام کے سانچے میں ڈھل گئے اگر فرصت ملی تو انشاء اللہ یہ داستان بھی ایک دن سناؤں گی۔

# اول انعام

نصرت چار لے کر کمرے میں آئی تو دیکھا، ابا جان اسی طرح سر جھکائے اُداس بیٹھے ہیں اس کا منتہا سادل کانپ اٹھا۔ اس نے تہمت کر کے پھر ایک بار بوجھا، ابا جان امتی ٹھیک ہیں نا!

”کہہ تو دیا بھنوا ٹھیک ہیں۔ ویسے آج ہی تو آپریشن ہوا ہے۔ اتنی جلد کیسے اچھی ہو جائیں گی!“

”پھر آپ اس قدر رنجیدہ کیوں ہیں۔ کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے؟“  
 ”تھک گیا ہوں بیٹی! رات بھر ٹھیک سے سو بھی نہیں سکا۔“ پھر اچانک تعجب کرتے ہوئے بولے: ”ارے تو چار کے ساتھ یہ جانے کیا لے آئی!“

”آپ صبح سے بھوکے جو ہیں۔ نصرت نے کیتلی اٹھاتے ہوئے اور پیالی میں چائے لاندیلے ہوئے کہا۔“ یہ سب کھانا ہوگا ابا جان! یہ کہہ دیتی ہوں! نصرت کے چہرے پر ذرا خوشی کی لہر دوڑ گئی۔

”تو بے! چار کی پیالی ہاتھ میں لیتے ہوئے ابا جان مسکرا دیئے۔ ایک ہی دن میں

اپنی امی کی طرح رعب جمانا سیکھ گئی تو۔“

اباجان کی بات سے نصرت کو ہنسی آگئی۔ لیکن پھر اس کی پلکیں بھیگ گئیں؛  
 ”ہش پگلی! روتی کیوں ہے؟“ کہہ کر تو آپریشن کامیاب ہوا ہے، اچھا تو یہ کر یہ کچھ انجکشن  
 اور دو آئیاں نرسنگ ہوم میں دے آ۔ میں ذرا سولوں۔“ اباجان نے نصرت کی بیٹھ پر شفقت  
 سے ہاتھ پھیرا۔ ”تو اپنی امی کو خود دیکھ آ، مگر دیکھ وہاں زیادہ باتیں نہ کرنا اور نہ رونا، سمجھی۔“

”اچھا اباجان! نصرت بہت خوش ہوئی۔ وہ چاہتی بھی تھی کہ امی جان کو ایک نظر  
 دیکھ لے۔ وہ کئی دن سے اپنی پیاری امی جان کو دیکھنے کے لئے ترس رہی تھی۔ وہ آخری  
 بار جب اپنی امی جان کو دیکھ کر آئی تھی تو اس وقت امی تھیں تو بہت کمزور لیکن اس کو  
 دکھانے کے لئے بڑی بہادر بن گئی تھیں۔“ اری سست کیوں ہے؟ آپریشن تو یوں  
 چٹکی بجاتے ہو جاتا ہے۔ اس میں تکلیف تھوڑی ہی ہوتی ہے۔“ وہ کہہ کر تو یہ رہی تھیں  
 لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے امی جان رو پڑنے کو ہیں۔ نصرت کو ایسا ہی لگا تھا مگر  
 اس نے بھی ضبط سے کام لیا تھا رات کو جب پڑوس کی منہ بولی پھوپھی اس کے پاس  
 سونے آئیں تو انھوں نے اس کی تعریف کی۔ ”نصرت تو بڑی اچھی بیٹی ہے۔ اپنے والدین  
 کے دکھ اور درد کو سمجھتی ہے!“

تیار ہو کر جب وہ اباجان سے کرایہ کے پیسے لینے آئی تو دیکھا کہ اباجان سونے  
 کے لئے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے بڑی احتیاط سے انجکشن اور دو آئیاں  
 کندیا میں رکھیں پھر سوچنے لگی کہ پیسے اباجان سے مانگوں یا ان کے کوٹ کی جیب سے

خود نکال لوں۔ اس نے ابا جان کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ کوٹ کی طرف بڑھی اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ لیکن اس کا ہاتھ جیب سے آریا نکل گیا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔

”اوئی اللہ! کٹی ہوئی ہے یہ تو! وہ بوجھ اس ہو کر سونے کے کمرے کی طرف بھاگی! اسے دیکھ کر ابا جان نے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ نصرت پلنگ پر بیٹھ گئی اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔

”تو آپ کو معلوم تھا آپ کو ابا جان! آپ کو کب معلوم ہوا کہ جیب کٹ گئی۔ کتنے روپیہ تھے بیگ میں اور کیا تھا جیب میں۔ اس طرح سوالوں کی بوچھاڑ کرتی ہوئی وہ رونے لگی۔ وہ رونے کے لئے بہانہ بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے موقع مل گیا۔

ابا جان اٹھ بیٹھے ”تو روتی کیوں ہے کیا رونے سے رقم واپس مل جائے گی؟“  
”تو پھر آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ اپنی آنکھیں ملنے لگی۔

پیاری بیٹی! میں ترے ننھے سے دل کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ چوٹ کھا کر تھوڑی دیر میں بھی ہرکا بکارہ گیا تھا۔ دوسرو پئے تھے بیٹی! کل ہی تو تنخواہ ملی تھی۔ کل کے انتظار میں آپریشن ملتوی رہا تھا بیٹی! اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ ہمارے لئے یہ رقم بہت بڑی تھی! تو اب کیا ہو گا ابا جان! نصرت ہمک کر رہ گئی۔ جو اللہ چاہے گا بیٹی! آزمائش کہہ کر نہیں آتی مالک کی مصلحت اسی میں کچھ ہوگی مگر تو کیوں روتی ہے۔“

”مگر اب خرچ کیسے چلے گا۔ امی کی دوائیاں کہاں سے آئیں گی؟ ابا جان آپ یہ میری

بالیاں لے جائیے“

”کیوں بے پگلی! تو کیوں فکر کرتی ہے جس نے یہ افتاد ڈالی ہے، وہ خود کچھ کرے گا نکشن اور دو آئیاں تو میں لے ہی آیا۔ یہ دو سو تو میں نے اس لئے بچائے تھے کہ تیری رشیدہ پھوپھی کو بلوالوں کا رشیدہ کے ساتھ دو بچے بھی ہیں۔ سوچا تھا کہ ایک ایک جوڑان کے لئے بھی بنوا دوں گا۔ رشیدہ اگر گھر کا انتظام سنبھال لیتی تیرا پڑھنے کا ہرج نہ ہوتا۔ اب دیکھئے خدا کو کیا منظور ہے۔ اللہ کے سوا اب کوئی سہارا بھی تو نہیں قرض مل سکتا ہے۔ مگر میں قرض لینا نہیں چاہتا۔“

نصرت نے ایک لمبی سانس بھری۔ وہ اٹھی جا کر اپنی کبیا کھولی۔ اس میں ڈیڑھ روپیہ ملا۔ اس نے لیا اور آبا جان کو سلام کر کے جانے لگی۔  
 ”دیکھ بھنو! امی سے کچھ کہنا“ ابا جان نے تاکید کی۔  
 ”جی اچھا ابا جان!“

راستے میں نہ جانے وہ کیا سوچتی رہی۔ چھوٹے بھائی سعید کو اس نے رکشا پر ساتھ بٹھالیا تھا۔ اس نے ایک جگہ سترے دیکھے تو اپنی اپنا کی طرف دیکھنے لگا۔ نصرت سمجھ گئی۔ اس نے رکشاڑ کو ایا۔ ایک سترہ خرید کر سعید کو بٹھما دیا اور پھر اپنے خیالات میں کھو گئی۔ ”امی کی بیماری ہی کیا کم تھی کہ اوپر سے ابا جان پر یہ افتاد پڑ گئی۔ ابا جان کے دل پر نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی وہ اسی طرح سوچتی ہوئی اسپتال کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ رکشا رکی۔ اس نے رکشا کے پیسے دئے اور کٹایا اور سعید کو ساتھ لیکر نرسنگ ہوم کی طرف چل دی۔“

اپنی امی کا سفید چہرہ دیکھ کر اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ مار کر رو دے۔ لیکن اس نے اپنے کو سنبھال لیا۔ امی اس وقت سو رہی تھیں، ننھی نصرت نے بڑی سمجھداری سے کام لیا اس نے جگایا نہیں۔ نرس کو سامان دے کر باہر نکلی تو اس کی آنکھوں سے گنڈکا جینا بہ رہی تھیں۔ سعید نے پوچھا ”اپنا تم روتی کیوں ہو؟“ اس کا جواب اس نے کچھ نہ دیا۔ چپکے رکشا پر بیٹھی اور گھر کی طرف چل دی۔ رکشا والا ایک بوڑھا سا آدمی تھا اس نے سمجھایا ”بھنو اللہ کو یاد کرو آپریشن سے خطرہ نہیں ہوتا۔ تمہارے گھر کوئی بڑا بوڑھا نہیں تم اکیلی کیوں آئیں؟“ رکشا والے سے یہ سنا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھر میں اکیلے آباہیں۔ وہ رات بھر کے جاگے تھے۔ میں دو آئیں لے کر آئی تھی“

”اچھا اچھا بڑی اچھی بیٹی ہے تو۔ کھانا کون پکاتا ہے؟ رکشا والے نے پوچھا۔“  
 ”امی جان!“

”امی جان! امی جان تو یہاں ہیں بھولی بھنو!“ اور اب نصرت اپنے جواب کی غلطی سمجھی اس نے بتایا کہ ابا جان، پھوپھی جان کو آج لے آئیں گے۔

”اور بیٹی تم نے کچھ نہیں سیکھا؟ رکشا والے نے سوال کر دیا۔ اور نصرت کے لئے سوچنے سمجھنے کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔“ کچھ کچھ کر لیتی ہوں۔ مگر میں بچیوں کے مدرسہ میں پڑھتی ہوں۔ امتحان کے چار مہینے باقی ہیں۔ نصرت کہنے کو تو کہہ گئی لیکن اس کے جواب سے رکشا والا مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے پھر کہا:-

”بیٹی پڑھنا لکھنا تو پھر ہو جائے اس وقت تو۔“ پھر نہ جانے وہ کیا سوچ کر

خاموش ہو گیا۔ سامنے ایک کار آرہی تھی۔ اس نے رکشا کو اس سے بچایا اور بائیں طرف ہولیا تھوڑی دیر میں گھرا گیا۔ نصرت بھائی کو لے کر گھر آگئی۔ ابا جان سو رہے تھے۔ سعید تو اپنی گیند لے کر باہر نکل گیا۔ نصرت چارپائی پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔

”اباجان ہماری دیکھ بھال کے لئے رشیدہ پھوپھی کو بلائیں گے۔ پھر پھوپھی جان کے ساتھ دو بچے بھی آئیں گے ہاں مجھے آرام تو ملے گا۔ بچوں میں میرا دل بھی بہلے گا مگر ایک بات یہ سبھی ہے۔ ان کے دونوں بچے بڑے شیطان ہیں وہ تو گھر کو کباڑے کی دوکان بنا دیں گے۔ ہم کچھ بولیں گے تو پھوپھی جان کو بُرا لگے گا وہ تو احسان کرنے آئیں گی اور یہاں ہم ان کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے آنے سے میرا اسکول کا ہرج نہ ہوگا۔ مگر میرا دل تو گھر میں لگا رہے گا۔ نہ جانے جلال اور ابر کس کس چیز کا ستیاناس کر دیں۔ پھر جب میں اسکول سے آکر ہوم ورک کروں گی تو ان کی چخ پکار میں پڑھ ہی کیا سکوں گی؟“ نصرت لیٹ لیٹے لیٹے سوچنے لگی۔

کیوں نہ احمدی بوا کو پندرہ دن کے لئے اباجان رکھ لیں۔ ان کے ساتھ بچوں کی کوئی پلٹن بھی نہیں ہے عادت کی بھی اچھی ہیں مگر ان میں عیب یہ ہے کہ وہ موٹی بہت ہیں۔ چار بنائیں گی، کھانا پکائیں گی تو مجھے خوب نچائیں گی۔ پڑھنے وہ بھی نہ دیں گی ذرا بھٹو دیا سلائی دینا، ذرا پانی تولا، وہ ہنڈیا دھو دے اور یہی کہہ کر سارا کام مجھ سے لے لیں گی۔ خود پڑھی پر بیٹھے بیٹھے حکم چلائیں گی۔ مگر پھر جب کسی کو نہ بلایا گیا تو گھر کا کیا بنے گا اور میری تعلیم؟ کیا اباجان اپنے ہاتھ سے چولہا پھونکیں گے؟ معلوم تو یہی تو ہوتا ہے



کیونکہ ان کے پاس نہ تو پھوپھی جان کے جوڑوں کے لئے رقم رکھی اور نہ احمدی بوا کو تنخواہ دینے کے لئے روپے ہی ہیں۔ کیا کریں گے ابا جان؟“ نصرت کچھ فیصلہ نہ کر سکی۔

اسی وقت ابا جان کنکھارے۔ نصرت چارپائی پر اٹھ بیٹھی۔ ابا جان آپ نہائیں گے اس کی زبان سے برجستہ نکل گیا۔ وہ جھٹ باورچی خانے میں گئی۔ چوڑھے میں لکڑیاں۔ لگائیں۔ لکڑیوں کے نیچے کچھ کاغذ رکھے اور دیاسلائیوں پر دیاسلائیاں جلا کر آگ جلانے لگی۔ ابا جان کمرے سے باہر آچکے تھے انھوں نے بھی مدد دی۔ آگ جل گئی وہ لوٹالے کر رنج حاجت کے لئے چلے گئے۔ نصرت کا خیال تھا کہ ابا جان تیترا بھر کر چوڑھے پر رکھ دیں گے مگر شاید انھیں خیال نہیں رہا۔ اب نصرت کیا کرے۔ اس نے ایک تدبیر کی۔ خالی تیترا چوڑھے پر رکھ دیا اور نل سے لوٹوں میں پانی بھر کر تیترا سے میں اٹدیلنے لگی اس طرح اس نے تیترا بھر دیا اپنی اس کامیابی پر وہ بہت خوش ہوئی۔

ادھر پانی گرم ہو رہا تھا۔ ادھر نصرت نے غسل خانے میں تولیہ اور صابون وغیرہ رکھ دیا۔ ابا جان واپس آئے تو بہت خوش ہوئے۔ تیترا کس نے رکھا ہے بیٹی؟“

”میں نے“

”تجھ سے کیسے اٹھا یہ؟“

نصرت نے اپنی تدبیر بتائی تو ابا جان نے اس کی پیٹھ ٹھونکی۔ ”شاباش بڑی بھاری اور ہوشیار ہے میری بیٹی! اور پھر انھوں نے تیترا اٹھا کر غسل خانے میں رکھ دیا کواڑ بند کر کے نہانے لگے۔ نصرت نے چار کے لئے پانی رکھ دیا۔ ابا جان کے آتے آتے

اس نے چار تیار کر لی جیسے ہی اباجان آکر بیٹھے اس نے ٹرے ان کے آگے رکھ دیا۔

”سعید کہاں ہے؟“ اباجان نے پوچھا۔

”گینڈے کر باہر گیا تھا ابھی تک نہیں آیا۔ باقی ہوں“ نصرت آواز دینے والی ہی

تھی کہ سعید پانی میں لت پت گھر میں آیا اس نے روتے ہوئے حمید کی شکایت کی کہ اس نے بھگو دیا۔ نصرت بسکی اس نے اس کے کپڑے اتروا کر نل کے نیچے ڈال دئے اور دوسرے

کپڑے پہنا دئے پھر میلے کپڑے کھنگال کر تار پر پھیلا دئے۔ اباجان یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ چار پیتے رہے اور دیکھتے رہے، چار پنی کر بولے: ”نصرت! تو چاہ نہیں پئے گی کیا؟“

”پنی لوں گی اباجان!“ اس نے سعید کی بوشرٹ تار پر ٹانگتے ہوئے کہا اور پھر جھٹ

اباجان کے پاس آگئی۔ سعید کو پکارا اسے ایک بسکٹ دیا۔ تعجب ہے کہ اس نے دوسرے

بسکٹ کے لئے ضد نہیں کی اور جتنی چاہ نصرت نے دی۔ اتنے ہی پر صبر کر لیا۔ اس کے بعد

نصرت نے ٹرے اٹھایا۔ پیالیاں وغیرہ دھو کر دھوپ میں اٹ کر رکھ دیں۔ اس کی امی

کا یہی طریقہ تھا۔ پھر وہ اباجان کے پاس آ کر کہنے لگی۔

اباجان گھر کی دیکھ بھال اور کام کاج کے لئے کسی کو بھی نہیں بلا یا جائے گا میں سب

کروں گی“

اباجان کو بڑا تعجب ہوا ”تو کیسے کرے گی، تیری عمر ہی کیا ہے، تیری تعلیم کا کیا ہو گا پڑھنے

کا ہرج ہوگا۔ گھر کا دھندا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ دیر تک لیکن لیکن کرتے رہے، لیکن

نصرت نے اپنا فیصلہ بار بار دہرایا تو انھیں بڑا سہارا ملا پھر بھی وہ تعجب سے کہتے رہے،

”گھر کا دھندہ تیرے بس کا نہیں“

دوسرے دن صبح ہی صبح ابا جان کو ثبوت مل گیا کہ نصرت ماں کی طرح نہیں پھر بھی جیسے  
تیسے ایک ماہ تک گھر کو سنبھال ہی لے گی۔ وہ نماز پڑھ کر گھر آئے ہی تھے کہ نصرت نے چار اور  
ناشتہ آگے لادھرا۔ اس کے بعد وہ کھانا پکانے بیٹھ گئی۔ اس نے سعید کو رومال میں باندھ کر  
پیسے دئے کہ دوڑ کر دوکان سے آلو لے آئے۔ وہ دوڑا دوڑا گیا۔ آلو لے آیا اتنی دیر میں  
نصرت نے آٹھا گوندھ ڈالا۔ آٹھا گوندھ کر آلو کاٹے اور پھر نوبت تک اس نے کھانا پکا لیا۔ ایک  
ناشتہ دان میں ابا جان کو دیا۔ ابا جان بیٹھے اپنی قمیص میں بٹن لگا رہے تھے۔ اس نے جھٹ  
قمیص چھین لی۔ اور بٹن لگا دیا۔ ابا جان کپڑے پہننے لگے۔ ادھر اس نے اپنے ناشتہ دان  
میں کھانا رکھا۔ سعید کو کپڑے پہنانے لگی تو دیکھا کہ اس کا پا جا مہ بھٹا ہے مشین پر جا کر  
سی دیا۔ اس کے بعد ابا جان اسپتال گئے۔ نصرت سعید کو لے کر پچھلیوں کے مدرسہ کو  
پیدل چل دی۔ مدرسہ پہنچی تو وہاں اُستانی نے ہوم ورک دیکھنا شروع کر دیا تو نصرت کو پتہ  
چلا کہ ہوم ورک تو رہ ہی گیا۔

”یہ تم نے آج کیا کیا؟“ اُستانی نے نصرت کو ڈانٹا۔ اس ڈانٹ پر نصرت کی آنکھوں  
سے آنسو جاری ہو گئے۔“

”آپا صاحب! میری امی بیمار ہیں۔“ اس کی زبان سے نکلا۔ اُستانی نے پھر کچھ نہ کہا تیسرے  
گھنٹے میں سعید آپ سے آپ رونے لگا۔ تو حساب کی اُستانی نے نصرت کو گھور کر دیکھا  
”اسے کیوں ساتھ لانی؟“ نصرت نے اُستانی کے گھورنے کا کوئی خیال نہیں کیا۔ وہ

جھپٹ کر سعید کے پاس گئی۔ وہ اس وقت صحن میں کھڑا تھا۔ اس کا پدیشاب خطا ہو گیا تھا نصرت نے پائے جامہ اُتار کر نزل سے کھنکالا اور دھوپ میں ڈال دیا۔ سعید پھر کھیلنے لگا، نصرت پلٹ کر کمرے میں گئی تو حساب کا گھنٹہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے پاس بیٹھی ہوئی ایک لڑکی سے پوچھا کتنے سوال ہوم ورک کے لئے دئے گئے۔ اس نے ریاضی کی کتاب کا صفحہ بتا دیا۔

نصرت نے مدرسے کے کام کے ساتھ سعید کو سنبھالا اُستانیوں کی ڈانٹ سہی وہ سمجھتی تھی کہ یہ ڈانٹ دس بارہ دن تک رہے گی۔ پھر امی گھر آجائیں گی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر پرنسپل صاحبہ کے پاس گئی۔ ان سے گھر کا سارا کچا چٹھا کہہ سنایا۔ پرنسپل صاحبہ نے اُستانیوں کو بتایا اور اُستانیاں اپنی اپنی جگہ نرم پڑ گئیں۔

چھٹی کے بعد جب وہ گھر چلی تو کھانے پینے کا وہ سامان جو ترکاری اور گوشت سے متعلق تھا ساتھ لیتی گئی۔ گھر پر اس کے ابا اچکے تھے انھوں نے پیدل دیکھا تو ٹوکا لیکن انھیں اطمینان دلا دیا کہ مدرسہ ہے ہی کتنی دور۔ ابا جان کی آنکھوں میں آنسو آگئے جن کو وہ پنی گئے۔“

”بیٹی! تیری امی آج بہت اچھی ہیں۔ اور نصرت یہ سن کر اتنا خوش ہوئی کہ کبھی کا ہے کو خوش ہوئی تھی۔ گھر میں جب اس نے بستہ رکھا تو اسے یاد آیا کہ برتن نل کے نیچے جو ٹھے ہی پڑے ہیں اور جو ٹھے میں راکھ بھری کی بھری ہے۔ وہ چو لھے کے کام میں جٹ گئی ابا جان نے چاہا کہ کچھ ہاتھ بتائیں تو ان سے کہہ دیا! ابا جان! آپ اسپتال پھر ایک بار ہو آئیے!“

”سب ٹھیک ہے بیٹی!“ ابا جان نے اطمینان دلایا۔

”اور امی کو پھیل کارس اور دو دھونگرہ۔“ اس نے برتن دھوتے ہوئے کہا۔  
 ”وہ سب ہو جائے گا۔ لاکڑیں پانی چولھے پر رکھ دوں۔ پہلے سب چار پی لیں؟“  
 ”نہیں ابا جان! آپ ذرا دیر آرام کر لیں۔ میں سب کر لوں گی۔“

اور یہ کہہ کر اس نے چار بنائی۔ چار پیتے وقت سعید چل گیا کہ ٹیٹھے چاول کھائے گا  
 اسے بہت سمجھایا کہ اس وقت صرف چار ہی پیتے ہیں مگر وہ نہ مانا۔ اس سے وعدہ کیا گیا اور  
 جب اسے بسکٹ دیا گیا تو مانا۔ چار پیتے پیتے نصرت نے سوچا۔ چلو آج ٹیٹھے چاول ہی پکا  
 لوں، صبح کی ترکاری رکھی ہے۔ کچھ روٹیاں اور ڈال لوں گی۔ اس نے دیگھی میں پانی اور شکر  
 ملا کر اُسے چولھے پر چڑھا دیا۔ پھر چاول دھو کر ڈال دیئے اور آٹا گوندھنے لگی۔ چاولوں  
 میں اُبال آیا۔ پھر وہ کھد بند کھد بند پکنے لگے اس نے کئی دیکھی تو پورا پورا چاول ویسے کا  
 ویسا ہی رکھا تھا۔ نا تجربہ کار نصرت نے یہ سمجھا کہ پانی کم رہ گیا، اس لئے نہیں گلے۔ اس  
 نے تھوڑا پانی ڈال کر ڈھانک دیا۔ پھر چولھے کی انلیٹھی کی طرف دیگھی کر کے روٹیاں  
 پکانے لگی۔ وہ روٹیاں پکا چکی تو پھر چاول دیکھے، وہ ویسے کے ویسے کچے تھے۔ اب  
 اس نے ابا جان کو دیکھا۔ وہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ نصرت کھڑکی سے ہو کر پُرسن کے  
 گھر گئی۔ ”مجیدہ پھوپھی چاول تو گلے ہی نہیں!“

مجیدہ پھوپھی اس کے ساتھ آئیں۔ دیگھی کا دھلنا ہٹا کر دیکھا۔ اری تو نے کیسے  
 چڑھایا یہ سب؟“

”چاول اور شکر ایک ساتھ“ نصرت نے جواب دیا۔ اس کے بعد چاول ڈال دیئے

تو بہ قیامت تک نہیں پکیں گے۔“

”پھر؟“

”پھر یہ کہ شکر اور چاول لائیں پکا کر دکھا دوں گی۔“ مجیدہ پھوپھی نے آدھ گھنٹہ ٹھہر کر میٹھے چاول پکانا سکھائے۔ ابا جان کو معلوم ہوا تو وہ مسکرائے کبھی اور رنجیدہ بھی ہوئے مجیدہ پھوپھی کے جانے کے بعد نصرت نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا پھر برتن دھوئے۔ پھر راکھ نکال کر ایک طرف رکھی۔ پھر بستر لگائے اور مہوم ورک لے کر بیٹھ گئی ابا جان اپنے پلنگ پر لیٹے۔ انھوں نے کروٹ دوسری طرف لے لی۔ لیکن وہ رورہے تھے۔ یہ بات نصرت کو اس وقت معلوم ہوئی جب اس نے ”ربط ضبط“ کے معنی پوچھے اور ابا جان نے ادھر دیکھا۔

”ہائے اللہ! آپ تو رورہے ہیں ابا جان، امی کیسی ہیں سچ بتائیے۔“

”بیٹی وہ تو اچھی ہیں لیکن تجھے پھر کی کی طرح ناچتے دیکھ کر میرا دل بھرا آیا ہے۔“

”آپ فکر نہ کریں“ نصرت نے کہنے کو کہہ تو دیا۔ لیکن اسے بھی ایسا لگا جیسے کوئی چیز دل سے اٹھ کر حلق کی طرف گئی اور وہاں اٹک گئی۔ اس نے سر نیچا کر لیا اور پھر پڑھنے لگی۔ سعید رویا تو ساتھ ہی اُسے تھپکنے لگی۔“

ابا جان کو نصرت اس وقت ایسی اچھی لگ رہی تھی کہ وہ اُٹھے۔ انھوں نے اس کے سر

پر ہاتھ رکھا ”اللہ تجھے دونوں جہان میں سُرخرو کرے۔“ انھوں نے دعائیں دیں۔

گھر کے اندر کا انہماک، خدائی پناہ، ابھی بھنگن سے نبٹی تو دھوبن سے سابقہ پڑا کبھی

محلہ کی کوئی عورت کچھ مانگنے آئی کبھی سمیڈ کے کپڑے درست کر کے کبھی اباجان کے جوتوں پر پالش کی۔ ایک بھر مجال تھا جس میں سر کھپا رہی تھی پھر بھی کچھ نہ کچھ کام باقی رہ جاتا جنے امی کیسے کر لیتی تھیں؟ اس کی زبان سے نکلا۔ گھر کے بھر مجال میں پھنس کر اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہوم ورک کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آگے دن استانیوں کی ڈانٹ پڑنے لگی۔ نصرت! اب تم توجہ نہیں دیتی ہو۔ اپنی سیٹ کھو دو گی۔“

مگر نصرت کرتی تو کیا۔ اس نے ہوم ورک کا وقت عشاء کے بعد مقرر کیا لیکن اس عمر کی بچی اسے منید آنے لگتی۔ اور دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد وہ اتنا تھک جاتی کہ جاگنے کی نیت کے باوجود وہ اذ نگھ جاتی اور پھر بستر پر آپ سے آپ گر کر سو جاتی۔

کامل پندرہ دن کے بعد جب امی گھر آئیں تو نصرت دہلی ہو چکی تھی اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اپنے سر میں تیل اس نے تین ہی بار ڈالا۔ امی جان کو اب بھی زیادہ باتوں کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لیٹے لیٹے اپنی ننھی کو بجلی کی طرح تڑپ کر کام کرتے دیکھتیں تو آنسو بہانے لگتیں۔ بے چاری لیٹے لیٹے بٹن لگانا اور ایسے ہی کچھ چھوٹے کام وہ خود کر دیتیں اور ہدایات دے دے کر اپنے تجربات سے اس کے ذہن کو بھرنے کی کوشش کرتیں۔

خدا خدا کر کے ڈیڑھ مہینے کے بعد امی جان نے غسل صحت کیا۔ اس کے بعد کچھ کچھ کام وہ بھی کرنے لگتیں۔ حالانکہ نصرت اب بھی ان کو روکتی اور دوڑ دوڑ کر کام ان کے ہاتھ سے جھپٹ لیتی۔

اس طرح اپریل کا مہینہ آ گیا اور اسکول میں امتحان کا چرچا ہونے لگا۔ وسط اپریل سے

امتحان شروع ہوا۔ نصرت نے امتحان دیا۔ پھر جب زلٹ سنا یا گیا تو پتھیوں کے مدرسے کی فرسٹ پوزیشن کی لڑکی نصرت تھرڈ نمبر میں پاس ہوئی۔ نصرت تیسرے نمبر پر رونے لگی۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی اور منہ لپیٹ کر لیٹ گئی۔ ماں نے تسلی دی: "اری پگلی یہی بہت ہے کہ تو پاس ہو گئی۔ تجھے پڑھنے لکھنے کا موقع ہی کب ملا ہے"

"اوں، اوں، اتی جان! ابا جان نے سالانہ امتحان میں گھڑی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو کیا ہوا محنت کر کے اگلے سال پڑھنا فرسٹ آنا اگلے سال گھڑی لے لینا۔" اسی وقت ابا جان خوش خوش گھر آئے: "کہاں ہے میری اچھی بیٹی نصرت؟" اور یہ کہتے ہوئے وہ نصرت کی طرف بڑھے۔ نصرت ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ابا جان میں تھرڈ پاس ہوئی۔"

"کون کہتا ہے تو تھرڈ پاس ہوئی تو فرسٹ پاس ہوئی۔"  
"فرسٹ!" نصرت ابا جان کو دیکھنے لگی۔

"ہاں، ہاں فرسٹ! اسکول کی پڑھائی اسی لئے تو ہوتی ہے کہ طالب علم ایک اچھا انسان بنے، پیاری بیٹی تو نے ماں کی بیماری میں وہ کار نمایاں انجام دیا ہے کہ دوسرا کہ نہیں سکتا تیری وجہ سے میرے سیکرٹوں روپے بچ گئے تو نے اس کسنی میں بڑی بوڑھیوں کو مات کر دیا۔"

اور یہ کہتے کہتے ابا جان نے ایک قیمتی گھڑی چیم چیم کرتی ہوئی جیب سے نکالی، اور نصرت کی کلائی میں باندھ دی۔



”بیٹی! اسکول میں تو تو ہمیشہ اول آتی رہی اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں کیسے بڑے امتحان میں ڈالا۔ لیکن تیری وجہ سے ہم سب کامیاب ہوئے تو ہم سب میں اول رہی یہی تو اچھی بچیوں کی اصل کامیابی ہے۔ خدا تجھ کو گھڑی مبارک کرے۔“

گھر کے سب ہی لوگ بہت خوش ہو رہے تھے۔ سعید اپنی اپیا کی گھڑی دیکھ رہا تھا۔  
 ”اپیا ذرا میرے ہاتھ میں باندھئے تو کیسی لگے گی؟“

مٹے بھائی کی کلائی میں نصرت نے گھڑی باندھ دی اور بولی۔ ”میرا منا بھی تو اول رہا وہ ضد نہیں کرتا تھا ہے نا!“ اور یہ کہہ کر نصرت نے سعید کے گال تھپتھپا دیئے۔

---

## پیتا مار

” بالکل غلط ہے ” شہاب چاچا نے اپنی گرجدار آواز نکالی اور ہم سب ان کی طرف دیکھنے لگے وہ ہمارے ساتھ پیال پر کھنے درخت کی جڑ سے ٹیک لگائے اور لحاف اوڑھے بیٹھے تھے۔ وہ ہر روز اسی جگہ بیٹھا کرتے تھے لیکن سرویوں میں جب گڑ کی سوندھی سوندھی خوشبو کو لہو سے پھیلتی تو گھر والوں کے لاکھ منع کرنے پر کبھی ہماری صحبت میں آ بیٹھے۔ وہ آتے تو ہم ان کو گرم گرم رس پلاتے۔ پیٹری کھلاتے حقہ بھر کر رکھ دیتے۔ وہ مزے سے حقہ پیتے رہتے اور قریب قریب آدھی رات تک ہمارے درمیان بیٹھے رہتے۔ آدھی رات کے بعد ہی گھر جاتے۔

شہاب چاچا کا اصل نام شہاب الدین تھا۔ وہ جوانی میں رومیہ راج کے مشہور چابک سواروں میں سے تھے۔ اب جبکہ وہ ہڈیوں کا ڈھپانچ ہو کر رہ گئے تھے ان کی کلائی ہم دو آدمیوں کی کلائی سے زیادہ چوڑی اور سینہ ۳۸ اینچ کا تھا۔ جوانی میں بھیم کے بھیم ہوں گے۔ رومیہ راج میں تھے وہ چابک سوار لیکن شکار کا اتنا شوق تھا کہ شہاب الدین چابک سوار کے بجائے ”شہاب الدین شکاری“ مشہور تھے۔ بستر برس کی عمر میں گھر آئے

اور پھر یہیں کے ہو رہے تھیں کار یوں کا لباس برجیس اور کوٹ وغیرہ پہننا انھوں نے چھوڑ دیا تھا۔ سردیوں میں پنڈلیوں پر پیٹیاں لپیٹ لیتے۔ اس کے اوپر روئی دار پاجامہ پہنتے باقی جسم پر کرتہ، کرتے پر روئی دار بنڈی، بنڈی پر کوئی پرانا کوٹ اور سب سے اوپر لحاف املی کی جڑ سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھے کہ رس پکانے کے لئے ایندھن جھونکنے کا وہاں نہ ٹسک ان کے سامنے ہوتا۔ وہ بیٹھے بیٹھے حقہ گڑ گڑایا کرتے اور ہماری باتیں سنا کرتے۔

گڑ گڑا کیا بھاؤ ہے؟ دلارے کو تین ماہ کی سزا ہو گئی۔ پنڈت سوامی دیال کا لڑکا کا بی، اسے میں پڑھتا ہے۔ کلو دادا کی پوتی کی شادی ہو گئی۔ یہ اور اس طرح کی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان باتوں سے ان کو نیند آنے لگتی لیکن جب کوئی بات ان کی زندگی کے واقعات، آنکھوں دیکھے حالات یا ان کی آپ بیتی سے ٹکرا جاتی تو وہ خود بخود منہ بند سے چونک جاتے اور پھر تروید یا تائید میں ایسے حیرتناک واقعات سنا تے جن کو دراصل حادثات کہنا چاہئے۔ ان واقعات اور حادثات میں عبرت انگیز اور تجربہ آمیز کہانیاں سمونی ہوتیں ان میں ہمیں ایسا مزہ آتا کہ اگر شہاب چاچا ان کے سنانے میں دیر لگاتے تو ہم خود ایسی ہنسی چھیڑ دیتے کہ وہ زبان کھولنے کے لئے مجبور ہو جاتے۔

آج شہاب چاچا آکر بیٹھے تو کسی نے محدود دادا کی ہوکا قصہ چھیڑ دیا اور پھر وہی ہماری گفتگو کا موضوع بن گیا "عورت بڑی وہمی ہوتی ہے۔" "عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔" "عورت بناؤ سنگار کی ولدادہ ہوتی ہے۔" "حر لیں ہوتی ہے۔" "خود غرض ہوتی ہے۔" "ڈرپوک اور بزدل ہوتی ہے۔"

یہ اور اس طرح کے خیالات ہم سب ظاہر کر رہے تھے ابھی اور نہ جانے کیا کیا کہتے کہ اچانک شہاب چاچا گرجے " بالکل غلط ہے۔" وہ املی کے پڑی کی جڑ سے ٹیک لگائے قریب قریب لیٹے تھے۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اب ان کی زبان سے حادثوں کی ندی بہنے میں صرف یہ کسر تھی کہ کوئی کچھ پوچھ بیٹھے، میں نے کہا " چاچا ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ رات کو چویا چوں کر دے تو ہماری گھر والی کا دم نکل جاتا ہے۔ ہماری پڑوسن پکی عمر کی ہے مگر اب بھی رات کو گھر سے باہر نہیں جاسکتی، گجودھر کی بھابی رات کو چھت کا پزنا لہ دیکھتی ہے تو اسے وہم ہو جاتا ہے کہ بھوت جھانک رہا ہے اور پنڈت سوامی دیال کی پتی....."

" اچھا بس بس رہنے بھی دے یہ گواہیاں اور ثبوت! چاچا نے ڈانٹ کر مجھے روک دیا اور میں ہی نہیں ہم سب سمجھ گئے کہ بوڑھے تجربہ کار کو کوئی حشمت دیدوارا قلعہ یاد آگیا کوئی آپ بیتی کلبلا رہی ہے۔ ہم سب چپ ہو گئے۔

" مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ ایک عورت ہی تھی جس نے چیتا مار گرایا تھا۔"

" عورت؟" ہم سب کی زبان سے ایک ساتھ نکلا۔ کلو دادا ہم سب میں بڑے تھے

انہوں نے کہا:-

" چاچا! کیا کہتے ہو؟ عورت نے چیتا مار گرایا؟"

" ہاں ہاں! وہ عورت ہی تھی وہ بڑی بزدل مشہور تھی! شہاب چاچا نے کلو دادا کی

طرف دیکھ کر کہا ہم سب ہنسنے لگے۔ " بزدل بھی اور چیتا مار بھی۔"

" تم کو یقین نہیں آتا۔ تم نے عورت کو اس کے اصل روپ میں دیکھا ہی نہیں میں نے

دیکھا ہے۔ چاچا نے لحاف اپنی کمر تک اُتار کر داینا ہاتھ باہر نکال لیا۔ ہم سمجھ گئے کہ اب ان میں گرمی آگئی۔“

”تو سنو گے تم سب بے“

”فرد سنیں گے پھر آپ کی زبان سے کیوں نہ سنیں گے؟“

”اچھا تو سنو یہ اس زمانہ کی بات ہے جب آتش جوان تھا“ میں مسکرایا۔ ”چاچا یہ آتش کون تھا بے“

”ارے تو نہیں جانتا۔ مڈل پاس کیسے ہو گیا۔ یہ اشعار نہیں پڑھے تونے: ۵

کام ہمت سے جوانمرد اگر لیتا ہے

سانپ کو مار کے گنجینہ زر لیتا ہے

میں نے دیکھا کہ چاچا کا دریا تے سخن دوسری طرف مڑا جا رہا ہے میں نے کہا

”چاچا! چیتے کو مارنے والی کے بارے میں کہئے“

”وہی کہوں گا چاچا نے سر مل کر کہا ”ہمت کی بات اس میں بھی ہے۔ اچھا تو چاچا اپنی

کہانی کی طرف مڑے۔“ مطلب یہ کہ جب میں جوان تھا اس وقت کی بات ہے اب جو یاد

آئی تو ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ نواب صاحب کے یہاں ایک انگریز لفٹیننٹ

آکر مہمان ہوا۔ میری طرح شکار کا بڑا شوقین تھا اس نے اتے ہی اپنے شوق کا اظہار کیا

کہ چیتوں اور شیروں کا شکار کھیلنا ہے۔ انہی دنوں کجلی بن کا ایک چیتا و مہلیہ اسٹیٹ

میں گھس آیا تھا اور اس نے بڑی دمہشت پھیلا رکھی تھی۔ انسانوں کا خون اس کے

دانتوں میں لگ چکا تھا۔ نواب صاحب نے مجھے بلایا۔ لفٹیننٹ صاحب سے تعارف کرایا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ میں اس وقت یہ موٹا (چاچا نے اپنے دونوں بازو تان کر بتایا، پانچ پانڈوں کا بھیم تھا۔ میری کلائی دیکھو (چاچا نے آستین چڑھا کر دکھائی) یہ کلائیاں بھری بھری ہوئی اور جوانی ہو تو بلیٹا محمود! (میری طرف دیکھ کر چاچا بولے، تم کہو گے کہ دیو کی کلائیاں ہوں گی انگریز بہادر ہاتھ ملا کر ہی مان گیا کہ یہ چابک سوار محض چابک سوار ہی نہیں ہے سمجھے تم سب!“

”ہاں چاچا! آج بھی تو آپ جھوم جھوم کر چلتے ہیں“

چاچا اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئے۔ اچھا تو میں نے نواب صاحب سے عرض کیا۔ حضور اس آدم خور پیتے نے علاقے میں قیامت برپا کر رکھی ہے۔ نہ جانے کتنے بچوں بوڑھوں اور عورتوں کو اٹھالے جا چکا ہے۔ تین شکاریوں کو کھا چکا ہے۔ کرنل صاحب سے کہئے کہ اس کا شکار کریں۔

میری گزارش سن کر نواب صاحب مسکرائے۔ لفٹیننٹ کی طرف دیکھنے لگے واقعی وہ انگریز پکا شکاری تھا وہ اس ہڈیناک چیتے کو مارنے کے لئے تیار ہو گیا۔ نواب صاحب نے مجھے حکم دیا کہ انتظام کرو اور پرسوں صاحب کو لے کر روانہ ہو جاؤ۔“

”جو حکم سرکار!“ کہہ کر میں نواب صاحب کی خدمت سے واپس ہوا میں نے دلاور سے کہا ”کہو ہمت ہے؟“ دلاور بڑا جیالاجو انمرد تھا اور میرا شاگرد بھی۔ اس کا رشتہ دار ایک بچہ بھی چیتے کا نوالہ بن چکا تھا۔ وہ خار کھائے بیٹھا تھا۔ جھٹ تیار ہو گیا میں نے

اسے ہدایات دیں اور پرسوں "آیا تو میں صاحب کو لے کر ایک گاؤں میں گیا۔ چھتے نے سب سے زیادہ نقصان اسی گاؤں کو پہنچایا تھا۔ گاؤں والوں نے ہمیں دیکھا تو ہمارے گرد جمع ہو گئے اور ان میں سے کسی نے دکھ بھری کہانی سنائی کہ کس طرح چیتا ہیراج کو اٹھالے گیا۔ اور کس طرح وتر کی عورت کو نہر پر سے اچک لے گیا۔ سچ مچ وہ سب خوفزدہ اور ہراساں تھے۔

"تو تمہارا کیا خیال ہے چیتا اب کہاں ہو گا بچے میں نے گاؤں والوں سے پوچھا ہے انہوں نے بتایا کہ تین دن سے ہمارے گاؤں میں کوئی واردات نہیں ہوئی۔ بسنا ہے کہ اب وہ تلونڈی گاؤں کی طرف دیکھا گیا ہے"

یہ سن کر ہم نے اپنے گھوڑے تلونڈی گاؤں کی طرف موڑ دیے۔ گاؤں والوں نے ازراہ بہمدی کچھ اس طرح کے فقرے اپنی زبان سے نکالے "کون جلنے یہ شکاری زندہ بچ کر بھی آئیں گے یا نہیں ہے"

تلونڈی گاؤں کو راستہ ڈھاک کے چھوٹے بڑے ایک مختصر سے جنگل میں ہو کر گیا ہے۔ ہم اسی طرف چلے۔ جنگل کے پاس پہنچنے تو دلاور نے چوکتا کیا صاحب بہادر سے کہتے کہ رانفل تیار رکھیں چیتا بڑا ہی دھوکے باز ہوتا ہے نہ جانے کدھر سے حملہ کر بیٹھے۔ دلاور کے کہنے سے پہلے میں نے رانفل تیار کر لی تھی۔ صاحب بہادر بھی چوکتا ہو گئے۔

ہم جنگل میں داخل ہونے والے ہی تھے کہ دو کسان کندھوں پر ہل رکھے اندر سے آتے دکھائی دیے دلاور نے کہا "ہمیں غلط خبر دی گئی۔ چیتا ادھر کہیں نہیں ہے اگر وہ یہاں ہوتا

یہ کسان اس طرح جنگل سے نہیں گزر سکتے تھے۔“

دلادر کی بات ہماری سمجھ میں آگئی لیکن گھوڑوں کو آگے بڑھنے دیا۔ وہ دونوں کسان پاس آئے تو انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں صاحب کے آگے بھی جھک گئے پھر میری طرف دیکھ کر بولے۔ ”شہسوار صاحب! اور صل وہ مجھے شہسوار کہنا چاہتے تھے، آپ کہاں جا رہے ہیں۔“

”چیتے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔“

”شہسوار صاحب! چیتا زندہ ہوتا تو آپ ہمیں اس جنگل میں نہ دیکھتے۔“

”کیا مطلب تمہارا ہے؟“

”اُسے تو ایک عورت نے مار گرایا۔“

عورت نے بالکل اسی طرح تعجب کے لمحے میں میری زبان سے نکلا جیسے تم سب نے حیرت کے ساتھ کہا تھا۔ میں نے صاحب بہادر سے کہا تو وہ بھی دنگ رہ گئے۔

”وہ کوئی شکاری عورت تھی؟“ صاحب نے مجھ سے پوچھا اور میں نے کسانوں سے۔

”نہیں صاحب! وہ تو ایک گنوار عورت ہے۔“

”ارے تو اس کی یہ ہمت!“

”شہسوار صاحب اس نے کلہاڑی سے اس کا سر بچا ڈیا۔“

”کلہاڑی سے آمنے سامنے ہو کر ہے۔“

ہم سب کو بڑی حیرت تھی یقین نہیں آ رہا تھا مگر دونوں کہہ رہے تھے اور ثبوت یہ



دے رہے تھے کہ دیکھئے ہم دونوں دنذاتے ہوئے اس جنگل سے گزرے ہیں۔“  
حیرت اور تجسس نے ہم سب کو بے چین کر دیا۔ کسان تو یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ ہم نے  
ارادہ کر لیا کہ اس عورت کو ضرور دیکھیں گے۔ اتنے میں کسانوں نے مڑ کر کہا۔ ”شہسوار صاحب  
نواب صاحب سے کہئے گا کہ ٹھاکر صاحب بلدیو سہائے نے بدلیا کے شوہر سے کھال چھین لی  
ہے اور وہ نواب صاحب سے پانچ ہزار کا انعام لینے جائیں گے۔“

”ہوں۔“ میں نے بڑھا کر کہا اور ہم سب جنگل میں داخل ہو گئے۔ امن کے ساتھ گزر گئے  
آگے ایک میل کی دوری پر تلونڈی گاؤں نظر آیا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے دکھائی دیئے  
انہوں نے ہم کو گھوڑوں پر دیکھا تو ایک نے دوسرے کو انگلی سے اشارہ کیا۔ پھر جب ہم  
گاؤں میں پہنچے تو بہت سے لوگوں نے جن میں بچے، جوان، بوڑھے عورت مرد سب تھے ہمیں  
گھیر لیا۔ وہ لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک چیتا مارنے کی کہانی  
ہمیں سنانے کے لئے بے تاب دکھائی دے رہا تھا۔ ہر ایک بول رہا تھا۔ میں نے کہا۔  
ایک ایک کر کے بولو۔ بتاؤ وہ عورت کہاں ہے۔“ وہ عورت مجمع میں نہیں تھی۔ اس کا شوہر  
رمضانی موجود تھا وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا۔

جس وقت رمضانی کے گھر ہم سب پہنچے تو رمضانی دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے  
لگا۔ ”اری جلدی جھاڑو دے تیرے گھر نواب لوگ آئے ہیں۔ چادر جلدی نکال، چارپائی  
پر بچھا دے۔ توبہ! کتنا گندہ بنا کر رکھا ہے سارا انگن!“

رمضانی کی گھبراہٹ دیکھ کر ہم گھوڑوں سے اتر پڑے اور سیدھے اس کے گھر میں

گھس گئے۔ انکے واقعی گندہ تھا۔ چولہا ویسے ہی رکھ سے بھرا پڑا تھا۔ برتن ادھر ادھر کھڑے پڑے تھے۔ گھر کی کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی۔ چیتے کے خون کے دھبے اور تھکے ہم نے گھر کے دروازے پر دیکھے۔ رمضان کی ڈانٹ سن کر بدلیا نے گھونگھٹ ڈال لیا۔ وہ دوڑ کر ایک اُجلی چادر نکال لائی۔ رمضان معزز مہمانوں کی آمد سے ایسا بوکھلایا ہوا تھا کہ اس نے کھری کھٹیا پر یہ بھی نہ دیکھا کہ درمی یا گدا ہے یا نہیں، بس ویسے ہی چادر ڈال دی اور بولا "صاحب بڑی آٹھڑ ہے پانچ برس ہو گئے بیاہ کو، سکھڑ پن نہ آیا۔ پھر حساب یہ بھی ہے کہ یہ آج کل بدحواس بھی ہے۔ ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی۔ وہ دیکھنے کو ٹھری میں بھاگ گئی۔"

"نہیں رمضان! وہ تو بڑی بہادر ہے، تم اس سے کہو اپنے بچے کو لے آئے رمضان کو ٹھری میں گیا۔ کھسڑ کھسڑ کھچا اس سے کہا "اری چل کیوں نہ!" وہ بچے کو لے کر آئی۔ اس نے بچے کو کاندھے سے لگا کھاتا تھا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور بچے کو ہاتھوں پر رکھ کر میرے قدموں کی طرف بھٹکنے لگی۔ میں نے دیکھا بچہ سو رہا تھا۔ شاید وہ دیر سے سو رہا تھا۔ میں نے حیب میں ہاتھ ڈالا۔ سو کاناٹ نکال کر بچے کے گریبان میں پھنسا دیا۔ "بہو اچھی ہے تو ہا" میں نے مسکرا کر کہا۔ بدلیا شرمگئی پھر میں نے صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ان کو بھی سلام کیا۔ صاحب نے بھی سو کاپتہ دیا۔ دلاور نے دس کاناٹ دیا۔

میرا خیال تھا کہ بدلیا روپیہ پا کر اور ہمیں دیکھ کر اپنا پورا کا زنا مہ بڑے فخر کے ساتھ

بیان کرے گی۔ لیکن وہ سچ پچ جیسا تم سب کہتے ہو، نا کہ عورت بزدل ہوتی ہے وہ کچھ ہی دیر کے لئے بزدلی کے اوپری حوالے سے نکلی تھی۔ اس کے بعد وہ پھر اسی خول میں گھس گئی۔ میں نے اس سے کہا ”ہو کیسے مارا تو نے چیتا“ تو چیتے کا نام سنتے ہی اس نے اپنے نوہینے کے بچے کو سینے سے چمٹا لیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ اور اسی جگہ بیٹھ گئی۔ اگر نہ بیٹھتی تو گر پڑتی رمضان نے بتایا کہ حضور! یہ جنم کی ڈرپوک ہے۔ دیکھئے تو آپ نے چیتے کا نام لیا اور اس کے چہرے کا رنگ پھک (فوق) ہو گیا۔

واقعی بدلایا کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ ایک بھولی بھالی گنوار اٹھڑ عورت تھی۔ میں شاباشی دے دے کر اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ رمضان نے اُسے بولنے پر اگسا رہا تھا وہ کچھ کہنے کے لئے ہماری طرف منہ کرتی لیکن سامنے وروازہ دیکھ کر پھر سہم جاتی اور زبان سے اپنے ہونٹ چاٹنے لگتی۔ میں نے رمضان سے کہا ”اسے پانی پلاؤ“ اس کے گھر کے باہر بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ مجھے بار بار یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ چوکیدار ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد چوکیدار دوڑتا ہوا آیا۔ کھال اس کے پاس تھی اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا اس نے کھال پیش کی اور کہا کٹھا کر حساب نے نواب صاحب کی خدمت میں بھیجنے کے لئے منگالی تھی۔ آپ ووجے کھانا انہی کے ساتھ کھائیں گے۔ ٹھا کر صاحب نے یہ پانچ سو روپے بدلایا کے لئے بھیجے ہیں۔

چوکیدار سے میں یہ سن کر مسکرا دیا۔ صاحب بہا در یہ سب کچھ نہایت خاموشی سے دیکھتے رہے تھے۔ وہ اپنی دائری نکالے کچھ نوٹ کرنے میں لگے تھے۔ کھال آئی تو

ایک طرف گھبرا کر بدلیا اس طرح بھاگی جیسے زندہ ہالگھ گھر میں گھس آیا ہو۔ وہ تو بچے کو لے کر کوٹھری میں گھس گئی۔ ادھر صاحب نے جیب سے پیمانہ نکالا۔ پیمانہ کا کوزہ ناچا اور ایک فیٹ دو فیٹ تین فیٹ پورے بارہ فیٹ کا فیتہ چیتے کی کھال پر لمبا لمبار کھا نظر آیا۔ پھر کھال کی چوڑائی ناپی گئی۔ چاروں پیروں کی ناپ لی گئی۔ آخر میں دم کی پیمائش ہوئی دم زیادہ لمبی نہیں تھی بلکہ چھوٹی تھی یہی دو فیٹ ۳ اچ۔

پیمائش سے فارغ ہو کر وہ مٹے، بولے "ول! وہ لیڈ می کدڑ یعنی وہ بدلیا کہاں گئی۔ رمضان پھر سمجھا سمجھا کر اُسے لے آیا اسی وقت مجھے خیال آیا کہ بدلیا اس وقت کچھ نہ بتائے گی۔ اس سے پھر باتیں کرنی چاہئیں۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ صاحب تو ٹھا کر صاحب کے مہمان ہوں گے اور میں رمضان کا دلاور صاحب کے ساتھ جائے گا۔ گھوڑے وہیں لے جاؤ۔

"بہت اچھا سرکار" کہہ کر چوکیدار بھاگا اور اس نے جا کر ٹھا کر صاحب کو اطلاع دی وہ دوڑے آئے۔ میں تو ٹھیک سے متوجہ نہیں ہوا۔ بس سلام کر لیا وہ بھی دکھاوے کا اور رمضان سے باتیں کرتا رہا۔ دلاور کو اشارہ کیا کہ صاحب کو لے کر جائے، صاحب سے میں نے کہا کہ پہلے میں بدلیا سے پوری کہانی سُن لوں۔ پھر آپ سے کہوں گا۔ میں اس سے بے تکلف ہونا چاہتا ہوں۔ صاحب ٹھا کر صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ میں نے دو آدمیوں کو حکم دیا کہ رمضان کی مدد کریں اور ایک عورت کو بلالائیں جو بدلیا کے گھر ہمارے لئے کھانا تیار کرے۔ اس حکم کے ساتھ بیس روپے میں نے دیئے۔

صاحب کے جانے کے بعد بدلیا کو ٹھہری سے نکلی۔ اب وہ کچھ کچھ شرماس رہی تھی اور کچھ کچھ مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا: ”سرکار کو ٹھہری میں آئیے نا!“ میں رضمانی کو لے کر اس کی کوٹھڑی میں چلا گیا۔ ”سرکار لیٹیے!“ میں بے تکلف کوٹھڑی میں پڑی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس پر درمی بچی ہوئی تھی۔ ایک میلا سا تکیہ سر ہانے درمی کے نیچے تھا۔ یہ چارپائی کچھ بڑی تھی مگر۔!“

مگر کہہ کر شہاب چاچا نے اپنے پاؤں پھیلادئے پھر بولے: ”پھر بھی وہ چارپائی میرے قدموں سے قریب ایک فیٹ چھوٹی تھی ادھی پنڈلی تک میرے پاؤں چارپائی سے نکل رہے تھے۔ میرے پاؤں کے نیچے بدلیا نے ایک لکڑی کا صندوق کھسکا کر رکھ دیا۔ اسی دوران اس کا منہ کمٹنا یا وہ ادھر مڑنے لگی میں نے کہا: ”ہو جا! اسے نہلا دھلا کر لا اور میری گود میں دے دے۔“

بدلیا بہت خوش ہو گئی۔ کھانا پکانے کے لئے عورت اور دونوں آدمی اچکے تھے۔ وہ آنگن صاف کر کے باورچی خانے میں گھس گئے۔ باورچی خانہ کوئی خاص عمارت نہیں تھی۔ بلکہ ایک کونے میں الگ چھپر یا پڑی تھی اسی میں چولہا اور کچھ برتن رکھے تھے بدلیا منے کو بہلانے لگی۔ وہ رونے اور چیخنے لگا۔ تیکھے پن سے بولی۔

”وہ آئے ہیں نا! اب ان کو خڑے دکھائے گا۔ اس نے مڑ کر کوٹھڑی کی طرف دیکھا میں سن کر مسکرا رہا تھا اور رضمانی لہہ رہا تھا۔ دیکھئے سرکار! اپنے آپ تو خوب چہکے گی اور دوسرا کچھ پوچھے تو جیسے منہ میں زبان ہی نہیں۔!“

”اری لے آ! میں نے ہنس کر کہا۔ بدلیا نے اپنی اور حنی میں منے کو لپیٹ لیا۔ پھر  
کوٹھری میں آئی۔ ایک پلوٹلی سے گاڑھے کانیا کرت نکال کر اسے پہنایا اور کچھ ہاندھ دیا اور  
پھر رضانی کو اشارہ کیا کہ لے کر سرکار کو دے دے۔

”تو خود دے کیوں نہ! دو! جو تے جو! اور یہ کہہ کر رضانی نے تہقیر لگا دیا۔ بدلیا  
شرما گئی۔ پھر اس نے منے کو میری طرف بڑھایا اور منہ دروازے کی طرف کر لیا۔ میں نے  
منے کو لے کر سینے پر رکھ کر لیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے لیا۔ ون ٹو  
تھری۔ ہاں بیٹے، اٹھو بیٹے! میری اس حرکت سے بدلیا ہنسنے لگی۔ سرکار بڑا شہر ہے یہ!  
”ہٹاری اپنے آپ دو کہتی ہے اور سامنے آکر سرکار! پذیرہ بیس منٹ اس  
طرح تیکھی پھیکھی باتیں کر کے میں نے بدلیا کو بے تکلف کر لیا۔ بار بار اس کی کوٹھری کی چیزوں  
کو بھی دیکھتا۔“

قصہ مختصر یہ کہ جب میں رضانی کے ساتھ کوٹھری میں کھانا کھا رہا تھا اس وقت تک وہ  
مجھ سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ پذیرہ پذیرہ منٹ کے بعد میں نے چیتے کا نام بھی لیا میں نے  
اتنی بار چیتے کا نام اس کے سامنے لیا کہ اب اس نام سے اسے وحشت کم ہو گئی۔ اس کے بعد  
بڑی ترکیب سے سارا واقعہ پوچھ لیا۔

یہاں تک کہ شہاب چاچا کہانی سنا کر رُکے انھوں نے حقہ کی طرف دیکھا۔ ہم سب  
کہانی سننے میں محو تھے۔ چاچا نے حقہ کی طرف دیکھا تو دلا درجھٹ چلم بھر لایا اور نیچا چاچا کے  
ہاتھ میں دے دیا۔ شہاب چاچا نے حقہ کا دم لیا اور پھر ایک لمبا کش کھینچا اور پھر اور یہ وقت

ہمارے لئے بڑی بے چینی کا تھا۔ ہمارے خیال میں کہانی پوری کی پوری باقی تھی چاچا نے اپنی لچھے دار باتوں میں ابھی تہسید ہی تہم کی تھی ہم سب سے ضبط نہ ہو سکا۔ ہم میں سے کئی ایک ساتھ پوچھ بیٹھے۔ ”چاچا پھر کیسے مارا اس نے چیتا۔“

”سنو“ اب پورا قصیدوں ہے۔ ”چاچا نے کہنا شروع کیا۔“ ہوا یہ کہ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ چیتا گاؤں کے اس کنارے ہمارے رکھیتوں تک آ گیا ہے کھیتوں سے گزر کر یقیناً گاؤں کا رخ کرے گا۔ اس خبر نے گاؤں بھر میں کھلبلی ڈال دی۔ لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے آدھا گاؤں خالی ہو گیا۔ گاؤں میں کچھ مالدار لوگ تھے وہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ رہ گئے۔ یا وہ لوگ جن کے رشتہ دار یا تو دور دراز گاؤں میں رہتے تھے یا تھے ہی نہیں۔ رضانی اس خبر سے ایک دن پہلے سات آٹھ کوس دور ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا۔ شام کو کسی نے یہ دہشت ناک خبر سنائی کہ چیتا جنگل سے نکل رکھیتوں میں آ گیا اور اب وہ اسی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے اب تو ان کے پاؤں بھی اکھر گئے۔ جو اپنے گھروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے انھوں نے ”جان ہے تو جہاں ہے“ پر عمل کیا۔ اور سامان گھروں میں چھوڑ کر بال بچوں کو لے بھاگے۔ اب گاؤں میں وہ لوگ ہی رہ گئے تھے جو چھڑی جائے دمڑی نہ جائے“ کے مصداق تھے یا پھر رضانی جیسے لوگ یا پھر ٹھاکر صاحب جن کے گھر میں دو بندو قیں تھیں۔ ٹھاکر صاحب نے ایک بندو ق بڑے بیٹے کو دے کر اُسے اٹاری کی کھڑکی پر بٹھا دیا اور خود دو منزلے کے اس کمرے میں جا بیٹھے جو راستے پر تھا۔ ان کے بال بچے ایک بڑے ہال میں بالکل محفوظ تھے۔ بدلیا بے چاری بہت

پریشان تھی اس کا شوہر باہر گیا ہوا تھا۔ تم سب کہو گے کہ وہ بے وقوف سب کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ تم کہو گے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے اس کے گھر میں تھا ہی کیا جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ نہ سکی تم کہو گے کہ عورت بزدل ہوتی ہے مگر ان مردوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو ایسے بدحواس ہو کر بھاگے تھے کہ انھیں یہ سبھی ہوش نہ تھا کہ جدھر بھاگے جارہے ہیں کہیں اسی طرف چیتا نہ چھپا ہو جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ نہ سکی۔

گاؤں کے زیادہ تر گھر خالی ہو گئے۔ لیکن بدلیا گھر میں ڈوبکی رہی اُسے دو خطرے ستارہ تھے ایک تو یہ کہ کہیں اس کا شوہر واپس آ رہا ہو اور چیتا اسے کھا گیا ہو۔ دوسرا یہ کہ چیتا گھر میں گھس آیا تو وہ کیا کر سکے گی؟ اس سے کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ ہمارے ساتھ نکل بھاگ ہم تجھے تیرے رشتہ داروں میں پہنچا دیں گے۔ لیکن وہ شوہر کی رائے کے بغیر گھر سے نکلنا نہیں چاہتی تھی وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اور منے کو سینے سے چمٹائے ہوئے تھی۔

سورج غروب ہو گیا۔ گاؤں پر موت بادل کی طرح چھا گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چڑیاں بھی اپنے گھونسلے چھوڑ کر کہیں بھاگ گئیں۔ بدلیا کو ٹھہری میں تھی اسے یاد آیا کہ باہری دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگائی ہے۔ اس نے اپنے منے کو دیکھا اسے چوما میرے لال! میں تیرے لئے سب کچھ کر گزروں گی" کہہ کر وہ اٹھی۔ کوٹھری سے باہر



آننگن میں دیکھا۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن بدلیا کو ایسا لگا جیسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں ملیں۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر جھکی جھکی دروازے تک گئی۔ اس نے کنڈی لگا دی۔ کنڈی لگاتے وقت اس نے دروازے پر نظر ڈالی۔ یہ تو چیتے کے ایک دھکے میں چرچرا کر گر جائے گا۔ سنتے ہو کلو بھیتا! اس بے وقوف نے گھر کی رسی لی اور کمزور دروازے پر تان دی۔ اپنے خیال میں چیتے کا راستہ بند کر کے وہ کوٹھری میں چلی گئی۔ کوٹھری کی کنڈی لگالی اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ جب یہ سب ہو گیا تو سنتے ہو محمود میاں رچا چا نے مجھے مخاطب کیا، وہ ڈرپوک عورت اب پھر ڈرنے لگی۔ اس کا جسم اب پھر تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر اسے یاد آیا تو وہ رونے لگی۔ پھر اس ”ناقص العقل“ پر بدحواسی سی چھا گئی۔ بنسی بھیا سُن رہے ہونا! اس نے بچے کو چارپائی پر لٹا دیا اور اس پر چادر ڈال دی پھر اس نے کواڑ کی دراڑ سے صحن میں دیکھا پھر اس نے چیکے سے کنڈی کھولی اور آننگن میں آگئی۔ بچ صحن میں آکر زور زور سے پکارنے لگی۔ منے کے آباگائوں کی طرف نہ آنا۔ وہیں رہنا، نیند تھی چیتا تم کو کھا جائے گا۔“

”تھی نا وہ بے وقوف!“

شہاب چاچا نے ہم سب پر ایک نظر ڈالی۔ ہم سب ایسا ہمہ تن گوش ہو کر اس قصے کو سُن رہے تھے کہ چاچا کو کچھ جواب نہ دے سکے اور نہ ہی سمجھ سکے کہ چاچا نے کیوں ہم پر بات ماری چاچا ہم سب کو مبہوت دیکھ کر خود ہی کہنے لگے:-

”کیسی بے وقوف تھی وہ عورت۔ اس کا خاوند سات اٹھ کوس دور ایک گاؤں میں بیٹھا تھا اور وہ اسے پکار رہی تھی۔ تم سب کیا جانو عورت ذات کو۔ تم نے اسے بڑے موٹے خول میں بھر دیا ہے۔ خول سے نکال کر اسے دیکھو وہ سراپا محبت ہے اگر وہ ماں ہے تو بیٹے پر جان نچھاور کرنے والی بیوی ہے تو شوہر کی نظر میں دیکھنے والی۔ بہ بیٹی ہے تو ماں باپ کی لاج رکھنے والی۔ اور اگر بہن ہے تو بھائیوں کی پیشانی کو چمکانے والی۔ کیا جانو تم سب عورت کو۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کر ایک ساتھی کے لئے دعا کی تو اللہ میاں نے عورت کو پیدا کیا۔ خیر تم تو قصہ سنو۔

بدلیا صحن ہی میں تھی کہ گلی میں کسی جانور کے بھاگنے کی آواز سنائی دی وہ چونکی اور بھاگ کر کوٹھری میں گھس گئی۔ اچانک گاؤں کے کتے بھونکے بدلیا کا خوف بڑھنے لگا۔ اس نے بچے کو بغل میں بھر لیا۔ کچھ کہنے کے لئے منہ کھولا تو ڈر کے مار سے اس کے دانت اس طرح بجنے لگے جیسے جاڑوں میں سردی سے بجنے لگتے ہیں پھر اس نے گاؤں کے ان پالتو جانوروں کے بھاگنے کی آواز سنی جن کو لوگ ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ بکریوں کے مینانے، کتوں کے بھونکنے، گاؤں کے بیل اور بھینسوں کے غون غون کرنے سے بدلیا پر ہول طاری ہو گیا۔ مویشیوں کی آوازوں کے اس واویلا میں اسے دل ہلا دینے والی ایک گرج سنائی دی۔ وہ اس گرج کے معنی سمجھ گئی۔ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کا دماغ ماؤف ہونے لگا۔ اچانک اسے گھر کے سامنے کئی بڑے جانوروں کے سر پٹ بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ اب وہ خوفزدگی کے آخری مرحلے میں تھی اسے ایسا محسوس ہوا کہ چلتا اس

کے صحن میں آدھمکا۔ اس کی نظر آپ سے آپ صحن کی طرف اٹھ گئی۔ ہائے اللہ! کوٹھری کا دروازہ تو کھلا پڑا ہے۔ اس نے کہا۔ دراصل دوسری بار جب وہ کوٹھری میں بھاگ کر آئی تھی اس وقت بدحواسی میں کوٹھری کے کوارٹنڈ کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے بچے کو چارپائی پر لٹا دیا۔ اور اس ارادے سے بڑھی کہ اس سے پہلے کہ چیتا کوٹھری میں آئے۔ وہ یا تو کوارٹنڈ کر لے یا پھر اس سے پہلے کہ چیتا بچے کو دھرد بوجھے خود چیتے کے منہ میں کود پڑے۔

بدلیا جلی تھی کوٹھری کے کوارٹنڈ کرنے لیکن کوارٹنڈ کپڑے تو دیکھا صحن میں نہ تو چیتا تنہا نہ چیتے کا سایہ۔ وہم ہی وہم تھا گاؤں کے مویشی اس کے گھر کے آس پاس بھاگ رہے تھے صحن ہی میں کھڑے کھڑے اسے ایسا لگا جیسے اس کے گھر کے باہری دروازے کو کوئی دھکا دے رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی یہ ”کوئی“ کون ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو اس بزدل عورت کی ”بزدلی“ پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ بولی۔ ”تم مجھے کھاسکتے ہو لیکن میرے بچے کو نہیں کھاسکتے۔“ وہ دروازے کی طرف بڑھی کوارٹنڈ کی دراڑوں سے اس نے صاف دیکھ لیا کہ چیتا کوارٹنڈ دھکیں رہا ہے۔ اسے شوہر کی یاد آگئی۔ اس نے کہا ”پہلے مجھے یہ بتا تو نے میرے منے کے آبا کو تو نہیں کھایا“ اور پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے چیتا رمضان کی کوکھا کر اب منے کو اٹھانے آیا ہو۔

بچے اور شوہر کی یاد نے اس کے ذہن کو بے ارادہ کر دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی رگوں میں کوئی چیز میرا ت کر گئی جس نے اسے اچانک چھپے کی طرف موڑ دیا وہ تیزی سے کوٹھری میں گئی۔ اندھیری کوٹھری میں اس نے ایک طرف ٹٹولا اور پھر جب وہ نکلی تو کلہاڑی

اس کے ہاتھوں میں تھی۔ سنتے ہو تم سب! عورت اب اپنے خول سے باہر آگئی تھی اب وہ بھیری ہوئی ایک شیرینی تھی۔ اب وہ نہ ڈری ہوئی تھی اور نہ سہمی ہوئی اس نے بچے کو بچانے اور اپنے خیال میں شوہر کا انتقام لینے کا تہیہ کر لیا تھا وہ کلہاڑی تان کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ چیتے کے ڈھکیلنے سے کواڑ چرچرائے۔ کندھی لگی لگی رہی اور کواڑ کا ایک تختہ پھٹ کر اندر گر گیا اور اس کے ساتھ ہی چیتے کا سر اندر آ گیا اور پھر رستی کے بڑے بڑے پھندوں سے بھی باہر آ گیا۔ ٹھیک اسی وقت کلہاڑی اس کے منہ پر پڑی اور اس کی تھو تھنی دانوں سمیت لٹک گئی۔ چیتے نے زمین ہلا دینے والی ایک دھاڑ ماری۔ ساتھ ہی پیچھے ہٹا تو رستی کے پھندے کے ساتھ کواڑ کے پھٹے تختے سے اٹک کر رہ گیا۔ کواڑ پھر چرچرایا۔ کلہاڑی پھر بلند ہوئی اور اب کی بار اس کی کھوپڑی پر پڑی اور گھس کر رہ گئی اور اس کے ساتھ ہی کواڑ ٹوٹ کر باہر گر پڑا۔ کواڑ کے ساتھ کلہاڑی بھی چلی گئی۔ بدلایا کو بس اتنا ہی یاد رہا کہ کواڑ ٹوٹ گیا اور کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تو وہ اس خیال سے کوٹھری کی طرف بھاگی کہ بچے کے اوپر لیٹ جائے تاکہ چیتا بچے سے پہلے اسے آکر دبوچے لیکن وہ صحن ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کیسی بزدل اور بے وقوف تھی وہ عورت کیوں نہ ہے

شہاب چاچا چپ ہو گئے۔ ہم سب نے ایک لمبی سانس لی ہم سمجھ رہے تھے کہ شہاب چاچا نے ہم پر طنز کیا ہے۔ ہم نے ان کے طنز کا جواب نہیں دیا۔ ہماری زبان سے ایک ساتھ نکلا۔

”پھر کیا ہوا چاچا“

”پھر کیا ہوتا وہ دن چڑھے تک بے ہوش پڑی رہی۔ دوسرے دن جب اس کا شوہر گھرا یا تو اس نے باہر چیتے کو مرا ہوا دیکھا اور اندر بیوی کو بے ہوش۔ اس نے پانی کے پھینٹے مارے تو اسے ہوش آیا۔ اسی وقت اس نے اپنے بچے کے بلبلانے کی آواز سنی تو بھوک کے مارے چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ وہ ہوش میں آتے ہی کوٹھری کی طرف بھاگی اور بچے پر جاگری۔ رمضان نے بڑی شکل سے اسے سنبھالا اور بتایا کہ چیتا باہر پڑا ہے۔ اب کیوں ڈر رہی ہے اری بے وقوف کتنی بزدل ہے تو۔ دیکھ چل کر۔“

رمضان نے بہت کہا۔ مگر اب عورت پھر موٹے خول میں گھس گئی تھی۔ وہ کسی طرح بھی کوٹھری سے باہر نہ نکلی۔ رمضان نے جا کر ٹھا کر کو بتایا کہ چیتا مارا جا چکا۔ ٹھا کرنے اس کی لاش اٹھوائی۔ کھال نکلوالی اور باقی جسم دور ایک گڈھے میں ڈلوادیا اور رمضان سے کہا ”جاگھر بیٹھ آرام سے“ اور لے اپنی کلہاڑی لے جا۔

مشہور ہو چکا تھا کہ چیتا مارا جا چکا ہے لیکن بدلایا ابھی تک یہی خواب دیکھے جا رہی تھی کہ چیتا اس کے بچے کو کھانے کے لئے سامنے کھڑا ہے۔ رمضان نے اس سے بہت پوچھا کہ چیتا کس نے مارا لیکن وہ کچھ نہ بتا سکی۔ وہ اتنا ڈری ہوئی تھی واقعی اسے اس کی کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا چیز اس کی رگوں میں سرایت کر گئی تھی جس نے چیتے کے مقابلہ میں کلہاڑی اٹھانے پر مجبور کیا مامتا کی قوت یا خاوند کی محبت کے سوا اسے ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں۔

شہاب چاچا نے قصہ ختم کر دیا۔ مگر ایک سوال اب بھی ہمارے دلوں میں

کلبلا رہا تھا۔ میں نے پوچھا۔

”چاچا! پھر انگریز بہادر نے کوئی اور چھتیا مارا ہو گا؟“

اس سوال پر شہاب چاچا پہلے تو ہنسے پھر یک دم سنجیدہ ہو گئے۔ بولے ”میں نے

صاحب بہادر سے کہا ”اب آپ کوئی اور چھتیا مار کیے چل کر، لیکن وہ انگریز تو ہمارے

دیس کا پُرانا راجپوت نکلا۔ اس نے جواب دیا ”مہو کو اب رائفیل سے چھتیا مارتے ہوئے

شرم آتی ہے“ اور پھر صاحب بہادر یہ کہتے ہوئے گاؤں سے واپس ہوئے کہ اب

میری شکاری زندگی ختم ہے“

## ..... اور دریا میں ڈال

الحمد للہ، میں اپنے شوہر سے ہمیشہ خوش گمان رہی۔ بھول چوک تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، وہ میرے شوہر سے بھی ہوتی لیکن وہ جلد ہی چونک جاتے اور استغفر اللہ پڑھ لیا کرتے۔ ان کی اچھی عادتیں مجھے پسند تھیں۔ ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے میں بہت جلد ان سے محبت کرنے لگی۔ اور یہ محبت دن پر دن بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ بڑے دیندار آدمی تھے۔ قرآن و سنت سے جو بات صحیح سمجھتے وہ کرتے، جو غلط ہوتی اس سے بچتے۔ ہمیشہ سچ بولتے، انھوں نے مجھ پر ہمیشہ اعتماد اور بھروسہ کیا۔ خرچ کے لئے ڈھائی سو روپیہ ہمدینہ دیا کرتے۔ اس رقم کے بارے میں کبھی مجھ سے حساب نہیں لیا اور نہ میری صندوقچی یا میرا بکس ہی کبھی ٹوٹنے کی کوشش کی۔ انھیں جھوٹ، غیبت، چغلی اور ایسی ہی دوسری باتوں سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بڑے فیاض تھے۔ اللہ کی راہ میں خوب دیتے۔ اللہ کا نام لے کر کسی نے ہاتھ پھیلا یا تو انھوں نے دس بیس روپے ہاتھ پر رکھ دئے۔

بس میں اس خوبی کی وجہ سے کبھی کبھی ان سے لڑ پڑتی تھی۔ وہ بھی اس لئے کہ آجکل

دھائی سو روپیہ میں چینی روٹی تو کھائی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی چاہے کہ ذرا ٹیم ٹام سے زندگی گزارے، تیر تہوار اور شادی غنی کے موقعوں پر اربان نکالے تو اس کی گنجائش اس رقم میں نہیں۔ تو ایسے ہی موقعوں پر میں ”ترباہٹ“ کر بیٹھتی۔ لیکن وہ اپنے اصولوں پر اتنی سختی سے عمل کرتے تھے کہ مجھے ہمیشہ ہارمانی پڑتی۔ وہ میری یہ دلیل بھی نہیں سنتے تھے کہ جب اللہ کی طرف سے آپ کو ہزاروں کی آمدنی ہے تو آپ اپنے بال بچوں کو کیوں ترسائے ہیں۔ دوسروں کو دینے میں اتنے فیاض ہیں۔ لیکن جن پر خرچ کرنا فرض ہے۔ ان پر نہیں خرچ کرتے؟

وہ میری اس بات کا جواب نہ دے پاتے تو مجھے اور زیادہ برا لگتا اور میں سمجھتی کہ ان میں یہ کمزوری ہے۔ اپنا نام کرنے کے لئے اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹتے ہیں۔ یہ بات میں ہی نہیں کہتی، محلہ بھر میں مشہور تھی۔ سارا شہر ہی کہتا تھا۔ لیکن ان کی کمزوری کی وجہ سے میں زیادہ دنوں ان سے کھنچی نہ رہتی بس ایک دو دن اڑتی اور پھر جھک مار کر دھندوں میں لنگ جاتی۔ یہ کہہ کر صبر کر لیتی چلو، میاں میں اور بہت سی خوبیاں ہیں۔ ایک یہ خامی ہی سہی۔

میں ان کی ایک خوبی اور بیان کروں۔ وہ بڑے مضبوط دل کے آدمی تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان پر بڑے دن بھی آئے۔ گھر میں موتیں بھی ہوئیں۔ میرے خسر جنہوں نے ایسا بیٹا پرورش کیا، اور جو ایک بزرگ یعنی ولی تھے۔ ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت بھی میاں ”انا للہ“ پڑھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ ایک آنسو تک میں نے ان کی آنکھوں میں



نہ دیکھا۔

لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سکینہ بی کے مرنے پر وہ رات بھر بے چین رہے بار بار انا للہ پڑھتے میرے اصرار کرنے پر کبھی رات کا کھانا نہیں کھایا یا عشاء کی نماز کے بعد جو نفلیں پڑھنا شروع کیں تو گیارہ بجے تک پڑھتے رہے۔ اور ان نمازوں میں سجدے اتنے لمبے کئے کہ میں حیران رہ گئی۔ اس حیرانی کے ساتھ اس وقت میری پریشانی اور بڑھ گئی جب میں نے سجدوں کی حالت میں ان کی جھکیاں سنیں اور سجدہ گاہ کو نم دیکھا۔

میری پریشانی کا سبب تو میری بہنیں سمجھ گئی ہوں گی۔ یعنی شوہر کی پریشانی ہر اچھی بیوی کو پریشان کر دیتی ہے۔ لیکن میری حیرت شاید سمجھ میں نہ آئی ہو۔ میں حیران یوں تھی کہ بی سکینہ لاکھوں کی جائیداد کی مالک ہوتے ہوئے کجس مکھی چوس تھیں۔ کجسوی میں ان کا بڑا نام تھا۔ گھر میں کیسی ہی تقریب ہوتی، کم سے کم پیسہ اٹھانے کی کوشش کرتیں۔ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ بھی انھوں نے کبھی نہیں دیا۔ مدرسہ اسلامیہ کے لئے چندہ مانگا گیا۔ صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ امانت صاحب اس معاملہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ۔ ہاں بھائی! امانت صاحب کے پاس تو جائیں گے ہی تم کو جو اللہ نے دیا ہے تو کیا قبر میں ساتھ لے کر جاؤ گی اور پھر کیا ہر بات میں میرا شوہر ہی رہ گیا ہے کہ جو بی صاحبہ کے پاس مانگنے گیا خود تو دامن سمیٹ لیا اور دوسرے کی طرف رجوع کر دیا۔ ایسے موقعوں پر سچی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا برا لگتا۔

سکینہ بی کے مرنے پر میں جانتی ہوں کہ کسی نے بھی غم کا اظہار نہیں کیا۔ امانت جتنا

مجھ سے کہا کہ میت میں جاؤ۔ میں نے صاف انکار کر دیا! کون کجخوس کی میت میں جائے!“  
 ”سنتِ رسول ہے۔ مسلمان کو اس کے مرنے پر بُرا نہیں کہتے۔“ میاں امانت صاحب نے میری بات کے جواب میں کہا۔ پھر بھی میں نہیں گئی۔ اس دن کے اخباروں میں سکینہ بی کی موت کی خبر تو آئی لیکن ایسے روکھے انداز میں کہ تو بہ بھلی۔ زیادہ تر اخباروں کی سرخیاں یہ تھیں  
 ”ایک کجخوس خاتون کا انتقال جو لاکھوں کی مالک تھی۔“

لیکن اسی خاتون کے مرنے سے میرے میاں امانت صاحب، صرف امانت صاحب نے ایسا سوگ منایا کہ میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ رات بھر نہ سو سکے بارہ بجے کے بعد جب وہ یہ سمجھے کہ میں بھی سو گئی تو بلند آواز سے سکینہ بی کی مغفرت کے لئے الفاظ نکالنے لگے۔

”پروردگار اپنی اس نیک بندی کی مغفرت فرما! میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک بہترین مسلمان خاتون تھیں۔ اے اللہ! سیکڑوں عورتیں بیوہ ہو گئیں، اے اللہ! آج ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ اے اللہ! اس نیک خاتون کو بخش دے۔“  
 اور پھر جو روزنامہ شروع کیا تو روتے چلے گئے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ جھنجھلا کر بولی۔  
 بس ایک تم ہی اللہ کے بندے ایسے ہو کہ اس کجخوس کا نام لے رہے ہو ایسی نیک بنتی بھی کیا.....“

وہ چونک پڑے۔ ”زینب! ایسی باتیں مت کرو۔ مسلمان میت کو ایسا مت کہو۔ تم نے یہ کہہ کر گناہ کیا۔“

”جی ہاں! گناہ کیا۔ سارا شہر گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ آخر آپ اتنے بھولے کیوں بنتے ہیں؟“

”بھولنا نہیں، سچ کہتا ہوں۔ میرے پاس آؤ۔“

میں جھنجھلائی ہوئی تھی لیکن شوہر کی اداسی پر ترس اُگیا۔ میں ان کے پاس گئی کہنے لگی۔ وہ موٹا سا بڑا رجسٹر تولاد۔

یہ رجسٹر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اشارہ پا کر رجسٹر اٹھلائی اور پھر ۶.....  
تو رہے میرے اللہ!..... اُف اللہ! مجھے معاف فرمایا..... میں ذنگ  
رہ گئی اور اپنے کال پر چائنٹ لگانے لگی۔

”تو آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟“

”تا کی تھی کہ نہ بتاؤں۔“

پھر میں نے زیادہ بات نہیں کی۔ کفارہ کے طور پر میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور اب اس انتظار میں رہی کہ دیکھوں میاں کیا کرتے ہیں۔ پھر میں بھی رات بھر نہ سوسکی۔

میاں جلدی جلدی اس رجسٹر کی مدد سے کچھ لکھتے اور ایک طرف رکھتے رہے

ایک بجے مجھ سے کہا :-

”کیا عرفان کو جگا سکتی ہو؟“

”ہاں کیوں نہیں! کیا کام ہے؟“

”ابھی صبح صادق اخبار چھپ رہا ہو گا۔ عرفان سے کہو کہ میرا یہ بیان پریس میں

دے آئے۔“

میں نے عرفان کو جگایا۔ ایک مضمون یا خبر یا بیان جو سمجھنے، انہوں نے عرفان کو دیا اور کہا ”بیٹے! جلد جا! اور صبح صادق کے ایڈیٹر کو دے۔ آ۔ زبانی بھی کہہ دینا کہ نمایاں جگہ میں شائع کر دیں۔“

عرفان بائیسکل نکال کر گھر سے بھاگا۔ پندرہ بیس منٹ کے بعد لوٹا۔ اور جواب دیا کہ یہ بیان ضرور شائع ہوگا۔

”الحمد للہ! کہہ کر مجھ سے کہا۔ اب ذرا کچھ کھلا پلا دو کل میرا روزہ ہوگا۔“

میری آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ میں نے جھٹ کھانا پیش کیا۔ میاں کے ساتھ

میں نے بھی کھایا دوسرے دن ہمارا روزہ تھا۔

صبح ہوئی، تو میرے گھر پر شہر کے بڑے لوگوں کا تانا بانا بندھ گیا۔ پریس کے نمائندوں

نے بھی میرے گھر کو گھیر لیا اور سب سکینہ بی کے حالات دریافت کر رہے تھے۔ یہ بھیڑ

دیکھ کر طے کیا گیا کہ آج ایک عام جلسہ کیا جائے اور امانت صاحب اس جلسے میں اپنے

اس بیان کی تفصیل فرمائیں۔

واقعہ یہ ہے کہ صبح کو جب اخبار لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا تو اسی طرح دنگ

رہ گئے، جیسے میں رجسٹر دیکھ کر ہٹکا ہٹکا رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، اس وقت تو میں سکینہ بی

کے گھر جا رہی ہوں ان کے پوتی پوتے اور نواسے نواسیوں کو دیکھوں گی۔ پھر میں بھی

جلسے میں جاؤں گی۔ عورتوں کے بیٹھنے کا بھی انتظام ہوگا۔“

”ضرور ہوگا، میں دن بھر جلسے کے انتظام میں رہوں گا۔ تم آجانا اور عرفان، رضیہ، نصرت اور تجوا کو کبھی لانا۔ سب آکر سنیں۔“

”ہاں سب آئیں گے۔“ یہ کہہ کر میں سکینہ بی کے گھر چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی ہوں تو گھر چھوٹے بڑے گھرانوں کی خواتین سے بھرا ہوا تھا۔ سکینہ بی کی پوتیاں اور نواسیاں زیادہ عمر کی نہ تھیں اور نہ گھریں کوئی بڑی عمر کا مرد ہی تھا۔ نظم کون سنہالتا۔ بے چاری لڑکیاں بدحواس ہو رہی تھیں۔ میں نے جا کر نظم سنہال لیا۔ میں نے دیکھا ساری ہی عورتیں غمزہ تھیں۔ میں نے سنا ساری ہی خواتین کہہ رہی تھیں کہ امانت میاں نے ہم سب کو بڑے لفظ منہ سے نکالنے سے روک دیا۔ ورنہ ہم سب ”میری میت“ کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔“

ظہر کے بعد میں تمام خواتین کے ساتھ جلسہ گاہ کو گئی۔ اللہ اکبر! ایسا مجمع کسی موقع پر کاہے کو کبھی دیکھا ہوگا۔ آدمیوں کا ایک جنگل تھا جو کھڑا تھا وہ تو اچھا ہی ہوا کہ کئی لاؤڈ اسپیکر لگا دئے گئے تھے۔ جلسہ تلاوت کلام پاک کے بعد شروع ہوا اس کے بعد جناب سید امانت حسین صاحب اپنے بیان کی وضاحت کرنے کھڑے ہوئے، تو مردوں اور ہم عورتوں کے مجمع میں ایسا سکوت چھایا گویا جیسے سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوں۔ سید امانت حسین نے حمد و ثنا کے بعد کہا :-

”مغر زحافہ رہن اور عزیز خواتین! موت برحق ہے، جو آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور مرے گا۔ کسی کے مرنے پر غمزہ ہونا بھی ایک فطری بات ہے۔ اس کے متعلق مجھے

کچھ نہیں کہنا ہے لیکن میں آپ صاحبان کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی طرف لے جاؤں گا جس میں حضور نے تلقین فرمائی ہے کہ مرنے کے بعد کسی مسلمان میت کو بُرا نہ کہو۔ ایک بار اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عورت کے سامنے مدینے کے سب سے بُرے آدمی کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس عورت نے بتایا ”بی بی آج وہ مر گیا“ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مرنے والے کی مغفرت کے لئے دعا کی۔ عورت کو بڑی حیرت ہوئی۔ پوچھنے لگی کہ جس شخص کو آپ اتنا بُرا کہہ رہی ہیں اب اس کی مغفرت کے لئے دعا کرنے لگیں؟ ام المؤمنین نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے اور ان سے تعلیم حاصل کی ہے آپ نے مسلمان میت کو بُرا کہنے سے روکا ہے“

تو بھائیو اور بہنو! جب ایک بُرے مسلمان کے لئے ہمارے دین میں یہ ریتیں موجود ہیں تو نیک میت کے لئے تو اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے یہی بی سکینہ مرحومہ جن کی دینداری، روزہ نماز کی پابندی اور دوسری باتوں سے تو آپ واقف ہیں لیکن وہ ایک بات میں بدنام رہیں۔ آپ سب انہیں کبخوس کہا کرتے تھے اور اس وجہ سے ان کی دینداری بھی شک کی نظروں سے دیکھی جاتی تھی لیکن میں عرض کروں آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جس میں ہے انفاق اور خیرات اس طرح کرو کہ دلہنے ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بخدا میں سچ کہتا ہوں، بی سکینہ مرحومہ اس حدیث پر پوری طرح عامل رہیں۔ آپ سب بھائی اور بہنیں میرے متعلق کہا کرتے تھے کہ سید

امانت بڑا فیاض ہے جو کچھ کماتا ہے سب خدا کی راہ میں جھونک دیتا ہے۔ اپنے بچوں کی پروا نہیں کرتا بیوی کو اچھا نہیں پہناتا مگر نہاروں کی رقم سالکوں، محتاجوں کو بانٹتا رہتا ہے۔ میں عرض کروں۔ دراصل یہ وہ دیہاتی مثل کے مصداق ہے کہ گاؤں میرا نام تیرا آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں جواب دوں گا کہ یہ دست غیب مجھے بی سکیمنہ کی وجہ سے ہی حاصل تھا۔

”نعرۃ تکبیر!.....“ اللہ اکبر!

مردوں کے مجمع سے ایک شور بلند ہوا۔ عورتیں رونے لگیں۔ ہم عورتیں تو نرم دل کی ہوتی ہیں مرد بھی رو رہے تھے۔ اور تو ادروہ صاحب جو اپنے ولی باپ کے مرنے پر نہ رونے جو اپنے جگر کے ٹکڑے فرمان کی موت پر صرف ”انا للہ“ کہہ کر رہ گئے وہ حضرت بھی اسٹیج پر کھڑے آنسوؤں سے اپنا رومال تر کر رہے تھے۔ نواب منزل اللہ خاں صاحب اس جلسہ کی صدارت کر رہے تھے سنا تھا کہ وہ بھی بڑے مضبوط دل کے آدمی ہیں۔ وہ بھی دونوں ہاتھوں سے سر پر کڑے تھے۔ کہنیاں میز پر ٹکی ہوئی تھیں اور آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔

سید امانت حسین صاحب پھر کچھ نہ کہہ سکے۔ کچھ دیر کے بعد جب ذرا طبیعت سنبھلی تو منشی امیر احمد صاحب نے بقیہ بیان پڑھا۔ بقیہ بیان دراصل رجسٹر کے حسابات کا کھاتا تھا جس سے معلوم ہوا کہ دو سو بائیس خواتین کو ماہانہ وظیفے دئے جاتے تھے۔ اڑتالیس مکتبوں کو سالانہ ایک لاکھ روپیہ دیا جاتا تھا۔ تین یتیم خانے مختلف جگہوں پر قائم تھے

جن کا فرج بھی اتنا ہی تھا۔ اس طرح اور تفصیلات تھیں۔ منشی امیر احمد صاحب جب یہ تفصیل مسنا چکے تو صدر جلسہ اپنے آنسو پونچھ کر اٹھے۔ کھڑے ہو کر فرمایا۔

اب میں جلسہ ختم کرنے سے پہلے مرحومہ کی وہ وصیت سناتا ہوں جو مجھے ابھی ابھی سید امانت حسین نے دی۔ صدر صاحب نے بتایا کہ وہ تمام ادارے جہاں جہاں امداد جایا کرتی تھی مرحومہ نے ان سب کے لئے اتنی ہی رقم کی وصیت فرمادی ہے اور یہ دیکھئے یہ وقف نامہ میرے ہاتھ میں ہے جس پر سید امانت حسین صاحب اور مرحومہ کی ایک بالغ پوتی عائشہ اور ایک بالغ نواسی آمنہ کے دستخط ہیں یہ تینوں اس جلسے میں موجود ہیں اور قراری گواہ ہیں۔ میں انشاء اللہ اس وقف نامہ کو کل رجسٹرڈ کرادوں گا۔

اس کارروائی کے بعد عصر سے پہلے جلسہ برخواست ہوا۔ اناؤنسر نے اعلان کیا کہ عصر کی نماز یہیں ہوگی چنانچہ عصر کی نماز اسی میدان میں ہوئی۔ مردوں اور عورتوں نے نماز کے بعد دعا کی اور پھر ہم سب اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس ہوئے اس دن لوگوں کو معلوم ہوا کہ سید امانت حسین صاحب کی فیاضی کس کی بدولت تھی اور لوگ کس غلط فہمی میں تھے۔ سب تعریف اللہ کے لئے ہے صاحب کمال اور مالک کمال اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جسے چاہے اپنے کمال کا کچھ حصہ دیدے۔



# شیطان کا دربار

”اُف تو بہ! یہ شعلے پھینکنے والے تو دے، یہ دھواں دھار بگولے اور یہ بھیانک دُہن کوہ! خدا یا میں کہاں ہوں اور یہاں کیسے آگیا؟“

میں نے آنکھیں ملیں سوچا، خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں مگر نہیں میں کھلی نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ دھواں دھار بگولے حرکت کرتے ہوئے شعلے اُگنے والے تو دوں میں سما گئے پھر میں نے دیکھا جیسے آگ کے محسوسے تو دوں پر بیٹھے ہوں۔ اس اب یہ تو جاندار معلوم ہوتے ہیں یہ تو آپس میں کچھ اشارے کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ خدا یا یہ کون سی مخلوق ہے جنہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے چہروں پر دھواں چھایا ہوا ہے ان کی آنکھیں انگارے برسار ہی ہیں ان کے جڑے بھیڑیوں کے جڑوں کی طرح ہیں لگتا تو یہ ہے کہ یہ انسان ہیں مگر یہ انسان کیسے؟

ایک گھبراہٹ اور خوف میرے دل پر چھا گیا۔ ابھی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ ان آگ کے تو دوں پر بھیانک صورت والے جاندار مجھے پکار اُٹھے :-

”یا ابلیس برتبلیس!“

اور پھر مکیدم شور مچا "زندہ باد!"

اوہ! یہ شیطان ہیں میرے دل نے کہا۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے تو ابلیس پُر تیلیس پڑھا ہے۔ یہ پُر تیلیس کے کیا معنی ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہ سکا میری نظر میں ایک بڑی پہاڑی کے تو دے پر تھی جس پر ایک عظیم دھواں دھار گبولے سے نکل کر ایک مجسمہ حرکت کرتا ہوا جا بیٹھا۔ وہ سارے شیطانوں سے زیادہ ہیبتناک اور کیرہہ تھا۔ نہ جانے کس طرح مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابلیس ہے۔ میں نے معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور یہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ سب کیا کرنے والے ہیں؟

ابلیس پُر تیلیس یا میرے الفاظ میں تیلیس نے اپنا بھاری جبر اٹھو لا۔ دھنویں کا ایک گولہ اس کے منہ سے بھبکے کی طرح نکلا میں نے سنا۔

"ہاں! میرے ساتھیو! اپنی کارگزاری بتاؤ، کیا کیا کار نمایاں کر کے آئے ہو آج جس نے سب سے بڑھ کر کام انجام دیا ہو گا اُسے میں اتلیم الشیطان میں اپنا نائب قرار دیدوں گا"

"ابلیس کے اشارے پر ایک طرف کا ایک تو وہ جنبش میں آیا۔ میں نے دیکھا اس تو دے پر سے ایک شیطان اُتر آیا ابلیس کے سامنے آیا۔ مجرا بجالایا اور پھر اس طرح اپنی کارگزاری سنانے لگا۔

بسم اللہ ابلیس پُر تیلیس۔

یوں تو آج میں نے بہت سے انسانوں، جمیہاں! آدم کے بیٹوں کو بہ کایا۔ لیکن مجھے فخر ہے کہ آج میں نے ایک عابد کو غافل کر کے تعزیرت میں گرا دیا۔

”ساتھیو! وہ عابد ایک جنگل میں خدائی عبادت کر رہا تھا اچانک میں روشنی بن کر اس کے سامنے نمودار ہوا۔ میں نے روشنی میں سے پکارا ”قبول قبول! اے عبادت گزار بندے تیری عبادت قبول۔ اب تو اس مقام کو پہنچ چکا ہے کہ میں تجھ پر سے عبادت کے سارے ارکان کی پابندی ختم کرتا ہوں۔ اب تو جو چاہے کرے۔ تجھے جنت ملے گی۔“

یا ابلدیں! یہ سن کر وہ عابد چونکا۔ روشنی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ کون اسے پکار رہا ہے؟ میں نے سمجھ لیا۔ میں نے پھر کہا ”میں کھلے چھپے بھیدوں کا جاننے والا ہوں۔ میں یہ بھی جانتے والا ہوں کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ سن! میں تیرا رب ہوں اور میں تجھ سے خوش ہو گیا۔ میری رضا کے سوا تجھ اور کیا چاہئے؟“

یہ سن کر اُس نے سامنے رکھی ہوئی کتاب اٹھانی چاہی میں سمجھ گیا کہ یہ کتاب قرآن ہے میں نے سوچا اگر اس نے قرآن دیکھ لیا تو میرا داؤں خالی جائے گا اُسے جلد سے جلد کلام الہی سے غافل کر دینا چاہئے۔ میں نے پکارا۔

”اب قرآن کی تلاوت کی تجھے ضرورت نہیں۔ علم دین کے سارے خزانے میں تجھے ودیعت کرتا ہوں۔ اٹھ اور اب جو چاہے کر۔ توجت کا حقدار ہو گیا۔“

وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اُسے سوچنے دیا۔ بولا۔ تو میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف تو انبیاء علیہم السلام کو حاصل تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو کوئی جادوگر ہے یا شیطان۔“

اُف یا ابلیس پُرتبلیس! یہ سنتے ہی میں بوکھلا گیا۔ وہ تو خیر مہوئی اس نے ”لاحول“ نہیں پڑھی۔ مجھے جھٹ ایک داؤں سوچھ گیا اور میں نے اسی داؤں سے اس کو چت کر دیا۔ میں نے کھٹسانی سی آواز بنا کر کہا:-

”اے عابد! بے شک تو خدا کے کلام کا عالم ہے، اپنے علم کے زور سے بچ گیا ورنہ میں تیرے ایمان کو اُچک ہی چکا تھا۔“  
یہ سنتے ہی عابد کی پیشانی چمک اُٹھی۔ غرورِ علم سے اس کی گردن تن گئی اور سینہ پھول گیا۔

بولاً۔ ”علم چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔“  
میں اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ عابد خوش خوش اُٹھا۔ بوریا پلیٹ کر ایک طرف چل دیا۔

میں پیچھے ہو لیا وہ اپنے معتقدین میں پہنچا اور ڈینگ مارنے لگا۔ آج میں علم کی بدولت بچ گیا ورنہ شیطان مجھے اُچک لے جاتا۔“ اور پھر اس نے سارا قصہ سب کو سنایا۔ سب اس کی تعریف کرنے لگے۔“

ساتھیو! میرا خیال ہے کہ میں نے اس کے اندر غرورِ علم بھردیا۔ میں نے اسے اللہ کے فضل سے غافل کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو اللہ کے فضل سے غافل کر دینا بہت بڑا کام ہے۔ یہ وہ باریک نکتہ ہے جسے میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ کام اس محفل میں اکرام کے لائق سمجھا جائے گا۔

میں نے دیکھا، جیسے ہی یہ شیطان چُپ ہوا۔ چاروں طرف سے اس کی تعریف ہونے لگی۔ لیکن ابلیس خاموش رہا اس نے دوسرے شیطان کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرا شیطان اپنی جگہ سے اُٹھا۔ ابلیس کے سامنے گیا۔ مجھ ادا کیا اور پھر ابتدائی کلمات کے بعد یوں اپنی رپورٹ سنانے لگا۔

”ساتھیو آج میں نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے اس کی مختصر روداد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج میرا گذر ایک مسجد میں ہوا۔ وہاں ایک نوجوان عالم درس قرآن دے رہا تھا۔ میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا۔ اسلام محض ایک مذہب ہی نہیں ہے بلکہ مکمل نظام حیات ہے۔ اس نظام میں جہاں ایک طرف عبادت کے اصول ہیں اسی طرح سیاست کے قوانین بھی۔ اس نظام میں ایک طرف شادی بیاہ کے قاعدے بتائے گئے ہیں تو دوسری طرف لین دین کے ضابطے بھی۔ اس نظام میں گود سے لے کر گور تک اور مسجد سے میدان جنگ تک کے سارے طریقے موجود ہیں۔ لہذا صرف روزہ نماز ہی کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ وہ سب کچھ فرائض میں سے ہے جو خدا نے حکم دیا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔“

نوجوان واقعی زبردست عالم معلوم ہوتا تھا۔ اس کا علم نیا تھا۔ میں نے سامعین پر نظر ڈالی۔ ایک طرف ایک چہنچہیں شخص بیٹھا نظر آیا۔ میں نے اس کے کان میں پھونکا یہ تو کوئی مودودی معلوم ہوتا ہے۔“

بس پھر کیا تھا۔ چہنچہیں صاحب نے بڑے تیکھے پن سے کہا ”جناب!

آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے؟“

اور پھر آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ میں نے کیا کیا ہوگا۔ دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ ایک کے طرفدار ہو گئے اور کچھ دوسرے کے اور پھر وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ میری ضرورت نہیں رہی۔ وہ نوجوان عالم صاحب اپنا سامنہ لے کر رہ گئے۔

یا ابلیس! میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی محفل کو درہم برہم کر دینا اس دین کو ڈھانا ہے جس پر آدم کے بیٹوں کو بڑا ناز ہے اُمید ہے کہ میرا یہ کام پسند کیا جائے گا۔ اس شیطان کے خاموش ہونے پر سبھی چاروں طرف سے تعریف کے انگارے برسائے جانے لگے لیکن ابلیس اسی طرح چُپ بیٹھا رہا جس طرح بیٹھا تھا۔ اس نے ایک اور شیطان کی طرف اشارہ کیا اس نے ابتدائی کلمات کے بعد اس طرح کہنا شروع کیا۔

ساتھیو! آج میں نے بازار جا کر دیکھا۔ کچھ لوگ چندہ وصول کر رہے تھے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کس کے لئے چندہ ہو رہا ہے؟ بتایا کہ ایک گاؤں میں آگ لگ گئی ہے۔ دس بارہ گھر جل کر راکھ ہو گئے۔ وہیں کے بے گھر لوگوں کے لئے امدادی رقم وصول کی جا رہی ہے۔

یہ سن کر میں آگے بڑھ گیا۔ حاجی اینڈ کو میں پہنچا۔ اپنے کوتا جزطہ ہر کر کے حاجی حنا سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں میں نے یہ سمجھ لیا کہ حاجی صاحب اپنی جیب سے ایک سو ایک ہزار روپیہ نکال چکے ہیں۔

میں نے حاجی صاحب کو سمجھایا کہ آپ زکوٰۃ تو نکالتے ہی ہوں گے۔ اس میں سے دو ہزار دیدیجئے۔ یہ ایک ہزار اصل کا بیج جائے گا۔

حاجی صاحب کو میری یہ بات پسند آگئی۔ انھوں نے نوٹوں کی گڈی صندوقچی میں ڈال دی اور اپنے منیم سے کہا کہ زکوٰۃ میں سے دو ہزار دے دینا اور یہ کہہ کر وہ ظہر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔

تیسرے شیطان کے چُپ ہونے پر بھی مر جبا کے نعرے بلند ہوئے میں نے اپنے دل میں کہا :-

”خدا یا اب ان شیطانوں کو کیسے کیسے باریک نکتے معلوم ہیں جن کے ذریعہ وہ انسان کو ایک عظیم ثواب سے محروم کر دیتے ہیں اور انسان ان کے دھوکے میں آجاتا ہے پھر میں نے اور بہت کچھ دیکھا سنا۔ ابلیس کے اشارے پر ایک ایک شیطان آتا اور اپنی اپنی کارگزاری سناتا۔ شیطانوں سے داد حاصل کرتا اور اپنی جگہ جا بیٹھتا۔

میں سوچ رہا تھا کہ دیکھنا ہے ابلیس کو کس کی شیطنت پسند آتی ہے سب کے بعد ایک ٹھکننا شیطان ابلیس کے سامنے آیا۔ اس نے زیادہ تمہید سے کام نہیں لیا۔ آتے ہی بولا۔

”آج میں نے ایک مرد کو اسی کی بیوی سے لڑا دیا۔ یہاں تک کہ مرد نے بیوی کو گھر سے نکال دیا“

یہ ٹھکننا شیطان اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ ابلیس پکار اٹھا۔ وہ مارا۔ اس کا راز تو آید

و شیطان جنیں کندہ۔ ہاں تو نے وہ کام کیا جو واقعی شیطانوں کے کرنے کا ہے۔ اچھا ہاں بتا کس طرح لڑا دیا تو نے دونوں کو؟

ٹھکننا شیطان بتانے لگا کچھ بھی تو زیادہ بدیگری نہیں پڑی۔ میں نے ایک تعویذ کچے دھاگے میں باندھ کر صدر دروازے کے بازو سے باندھ دیا اور ایک طرف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مالک مکان آیا۔ اس نے وہ تعویذ دیکھا تو پکڑ کر کھینچ لیا۔ تعویذ کو کھولا، تعویذ کا نقش اس طرح تھا:

ل	ف	ا	غ
رورا	یا عزا زیل	ا	ا
از غوث	ف	تازن	ف
ل	بیائد	نزدما	ل

وہ دیر تک یہ تعویذ دیکھتا رہا۔ اسے فکر مند دیکھ کر میں اس کے پاس گیا میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر وہ تعویذ کا نقش چھپا لیا۔ میں نے کہا ”چھپانے سے کیا فائدہ؟ گھر کی خبر لیجئے“

اور یہ کہہ کر میں وہاں سے ہٹ گیا لیکن اس ٹوہ میں رہا کہ دیکھوں گھر میں کیا ہوتا ہے مالک مکان گھر میں گیا اور جاتے ہی اس نے بیوی سے پوچھا ”غوث کو جانتی ہو؟“



بیوی نے جواب دیا " وہ میرا مومن زاد بھائی، وہی تو ہے "۔  
 "جی ہاں، وہی۔ تو تشریف لے جائیے۔ دعا تعویذ ہونے لگے کہ میں غافل ہو جاؤں۔"  
 اور اس کے بعد غیرت دائرہ کرنے وہ بے نقط سنائیں کہ تو بھلی۔ لاکھ لاکھ بیوی نے تمہیں  
 کھائیں لیکن مرد نے جھوٹے پکڑ کر اسے گھر سے نکال دیا۔

"یا ابلیس! میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تھوڑی محنت کر کے کارِ عظیم انجام دیا۔"  
 یہ تو کوئی کام نہ ہوا۔ یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے۔ سارے شیطانوں نے کہا لیکن ابلیس  
 اس ٹھنکنے شیطان کی شیطنت سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔  
 پھر بولا۔ ایک مرد کو اس کی بیوی سے لڑا دینے کے معنی یہ ہیں کہ انسانوں کے معاشرے  
 کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اگر تم سب ہی ایک کام کر جاؤ تو انسان پر وہ عظیم نفع ہوگی جسے دنیا  
 بھلانا نہ سکے گی اور پھر اس میں وہ فتنہ برپا ہوگا جس کا روکنا انسان کے بس کا کام نہیں  
 ہوگا۔"

یہ کہہ کر ابلیس نے نیابت کی سند اس ٹھنکنے شیطانوں کو عطا کی۔ میں حیرت زدہ رہ گیا  
 میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر میں نے دیکھنا چاہا۔ لیکن اب وہ سب نظروں سے  
 اوجھل ہو چکے تھے۔ میں آنکھیں کھولے اپنے بستر پر پڑا رہا۔ اچھا تو میں نے خواب دیکھا  
 ہے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر میں اپنے محلے کے زمین خان کو یاد کر کے افسوس کرنے لگا۔ اس  
 بیوقوف نے ذرا سے شک پر بیوی کو طلاق دے دی تھی اور پھر خود بھی تباہ ہوا۔  
 اور اس کے بال بچے بھی۔ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

## ۹۔۳ برس کے بعد

” لیکن اے قیصر! یہ تو آپ کی ایک عقلی دلیل ہے۔ ضروری نہیں کہ عقلی دلیل پر کوئی شخص اپنا دین دھرم تبدیل کر دے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عقل ناقص ہے۔“  
حکیم صدوقی نے زچ ہو کر کہا۔

” مگر تم جیسے سمجھار آدمی کے پاس اس عقلی دلیل کا کوئی ٹوڑ نہیں۔“ قیصر روم تھیوڈوسیوس نے کہنا شروع کیا۔ ” کیوں حکیم! کیا وہ خدا جس نے ایک بار دنیا کو پیدا کر دیا اس کے لئے مشکل ہے کہ دوبارہ سارے جہان کو پھر بنا کے؟“  
” خدا کے لئے مشکل نہیں ہے۔“

” اچھا تم نے یہ تسلیم کر لیا۔ یہ بتاؤ کہ ایک شخص نے ستر خون کئے اس نے نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا نہ جانے کتنے رشتہ داروں کو سوگوار کیا۔ نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کیا۔ کیا تم اس نقصان کا اندازہ لگا سکتے ہو؟“

” نہیں اے شہنشاہ!“

اس کے بعد وہ شخص گرفتار ہوا؟ اور میں نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا تو کیا اس کے

کہ تو توں کی اُسے پوری سزا مل گئی ہے اسے پورا پورا بدلہ مل گیا ہے  
”نہیں!“

”تو پھر ضرورت ہے کہ ایک ایسا دن آئے جب پورا پورا انصاف کیا جاسکے اور  
کوئی پورے پورے نقصان کا اندازہ کر کے پوری پوری سزا دے سکے۔ بولو  
ضرورت ہے ایسے دن کی ہے“

”.....“

”حکیم! تم چپ کیوں ہو۔ جواب دو۔“

”حضور! ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا ہی جائے۔ حضور کو خدا نے سب سے  
کا وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ بڑے بڑے عاقل آپ کے سامنے عاجز ہیں۔ اگر کل خدا کسی  
ایسے بلیغ شخص کو پیدا کر دے جو سب سے سب سے آپ کی زبان بند کر دے تو ہے“  
”تو آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟“

”میری عرض وہی ہے کہ آج تک کسی شخص نے بھی آنکھوں دیکھی یہ دلیل نہیں دی  
کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے۔“

”تو کیا خیال ہے تمہارا۔ ایک شخص آکر یہ اطلاع دے کہ میں نے ملک حسین دیکھا  
ہے تو تم جھٹلا دو گے؟“

”کیا معلوم وہ اپنا رعب قائم کرنے کے لئے یہ جھوٹ بول رہا ہو؟“

”لیکن اگر وہ کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اور اس جھوٹ سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔“

”حضور! میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ پھر مجھے اسی شخصیت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جسے آپ نبی مانتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ چکا کہ جو حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہو اُسے آپ کی بات ضرور مان لینا چاہیے۔ لیکن میرا جیسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی واضح دلیل نہ ہوگی وہ آپ کے عقیدہ آخرت کو کیسے تسلیم کر لے۔ دیکھئے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ آپ مجھے قتل نہ کریں گے۔ آپ نے اس اقرار کے ساتھ بحث چھیڑی ہے کہ دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں ہے۔ آپ میرے سامنے واضح دلیل پیش کریں۔ میرا سوال پھر سُن لیجئے۔ آج تک کبھی نہیں دیکھا گیا نہ کہیں سنا گیا کہ کوئی مر کر پھر زندہ ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ مرنے کے اندر جسم ستر جانے کے بعد پھر کسی کو زندگی مل سکی ہو۔ بحث و مناظرہ میں تو جسے اللہ نے زور بیان زیادہ دیا ہے وہ دوسرے کی زبان تو بند کر سکتا ہے مگر دل میں یقین نہیں پیدا کر سکتا۔ مجھے دل کا یقین چاہیے۔“

شہنشاہ تھیوڈوسیوس جو ۳۲۵ء میں روم کا مشہور قیصر گذرا ہے حکیم کی اس منطق سے فکر مند ہو گیا۔ وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر پوری طرح ایمان لایا تھا۔ وہ اپنی ساری قوم اور رعایا سے توجید رسالت اور آخرت کے عقیدہ کو منوا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے ایسی سمجھ دی تھی کہ وہ ہر ایک کو پوری طرح مطمئن کر دیتا تھا مگر حکیم صدوقی کو وہ مطمئن نہ کر سکا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو حکیم کے مطمئن نہ ہونے پر قوم اور رعایا پھر اپنے پہلے دھرم کی طرف پلٹ جائے قیصر کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا

کہ وہ خدا سے مدد کا طلب گار ہوتا۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں خدا سے دعا کی۔ اچانک دربار کے باہر آواز بلند ہوئی۔

”مہرم مہرم والامررم یا قیصر!“

اور ساتھ ہی دربان نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ”لوگ ایک نوجوان کو چوری کے جرم میں پکڑ کر لائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے پاس سے تین سو برس کے پہلے کا سکہ برآمد ہوا ہے۔“

”اسے حاضر کرو“ قیصر تھیوڈوسیوس نے حکیم سے بحث کا سلسلہ روک دیا۔ اور اب وہ ایک بیچ اور منصف تھا۔ مجرم اور کوتوال اس کے سامنے پیش ہوئے۔ مقدمہ اس طرح شروع ہوا۔

کوتوال! حضور! اس نوجوان کے پاس سے یہ سکہ برآمد ہوا ہے۔ سیکڑوں آدمی گواہ ہیں۔“

قیصر: (سکہ دیکھتے ہوئے) کیوں نوجوان! یہ سکہ تمہارے پاس تھا؟

نوجوان: ”جی یہ سکہ میرا ہے اور یہ میرا مال ہے میرے پاس ایسا ہی سکہ اور ہے۔“

قیصر: ”دکھاؤ۔“

نوجوان: (دوسرا سکہ پیش کرتے ہوئے) ”یہ لیجئے۔ میں نے چوری نہیں کی

اور نہ مجھے دقت ملا۔“

قیصر: ”تم پر کبھی جنون تو نہیں ہوا۔“

نوجوان: ”خدا کا شکر ہے کہ میں نہ کبھی مجنون تھا اور نہ آج ہوں۔ میں پورے شعور کے ساتھ اپنا بیان دے رہا ہوں۔“

قیصر: مگر یہ سکہ ثابت کر رہا ہے کہ تم کو تین سو برس پہلے کا دینہ ہاتھ لگ گیا ہے اور تم جانتے ہو کہ ہر دینہ سرکاری ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ تمہیں اس کا خمس (پانچواں حصہ) مل جاتا لیکن تم نے چھپایا اس لئے تم مجرم ہو۔“

نوجوان: ”میں مجرم کیسے ہو سکتا ہوں۔ میں نے بھرے بازار میں باورچی کو پورے اطمینان سے یہ سکہ دیا۔ اگر مجھے چھپانا ہوتا تو مجھے اسے گلا ڈالنا چاہئے تھا۔“

قیصر: ”تم بڑے نڈر نوجوان معلوم ہوتے ہو لیکن تم یہ بھولتے ہو کہ اس سکہ پر تین سو برس پورا ٹھہرتا ہے۔“

نوجوان: (بوکھلا کر) تین سو برس، تین سو برس۔ خدا کے واحد کی قسم، میں اور میرے دوست تو پرسوں یہاں سے گئے ہیں۔“

قیصر: ”تم کیا کہتے ہو۔ پرسوں جانے کے کیا معنی ہیں۔“

نوجوان: ”.....“

قیصر: تمہاری خاموشی، تمہارا خوفزدہ چہرہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم چور ہو۔“

نوجوان: ”میں چور نہیں ہوں میں اس سکہ کی وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوں۔“

قیصر: ”پھر صاف جواب دو، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔“

نوجوان: (جھنجھلا کر) اگر حضور نے انصاف کیا ہوتا تو ہم ساتوں دوست کیوں اپنی

جان بچا کر بھاگتے۔“

قیصر: (کو تو ال سے) اس نوجوان کی پھیلی رپورٹ تمہارے پاس ہے۔“  
کو تو ال: ”میں بالکل ناواقف ہوں۔“

قیصر: (نوجوان سے) ”پرسوں تم کیوں بھاگ گئے تھے۔“  
نوجوان: (چاروں طرف حیران و پریشان ہو کر دیکھتا ہے)۔

قیصر: ”تم پریشان نہ ہو۔ اپنا بیان دو، تم پر ظلم نہ ہوگا۔“  
نوجوان: ”اگر آپ میری جان بخشی فرمائیں اور کہنے دیں تو عرض کروں۔“

قیصر: ”میں خدائے واحد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو قتل نہ کروں گا۔“

نوجوان: ”خدائے واحد، خدائے واحد، عیسیٰ، عیسیٰ، خدایا! میں کیا سُن رہا ہوں  
ایک دن میں یہ کیا ہو گیا۔ پروردگار تیرے بس میں سب کچھ ہے۔“

قیصر: ”نوجوان، تم پر حیرانی کی کیفیت کیوں طاری ہے۔ اپنا بیان دو۔“  
نوجوان: ”تو کیا یہ صبح ہے کہ آپ نے خدا کو ایک تسلیم کر لیا۔ اور حضرت عیسیٰ کو نبی

مان لیا۔“

قیصر: ”بے شک! میرا یہی ایمان ہے۔“

نوجوان: ”الحمد للہ، یہی میرا وہ جرم تھا جس کی وجہ سے ہم ساتوں دوست پرسوں  
یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ یہ کو تو ال صاحب جو آج کہتے ہیں کہ ہم سے ناواقف ہیں۔“

ان کے جاسوس ہماری تلاش میں تھے لیکن ہمارے خدا نے ہمیں حفاظت کی جگہ پہنچا دیا۔

قیصر، حکیم صدوقی اور سارے درباری حیران تھے کہ یہ کیسا نوجوان ہے اور کون ہے اور کیسی باتیں کر رہا ہے۔ سب بڑے دھیان اور نہایت دلچسپی کے ساتھ مقدمہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔

قیصر: (نوجوان سے) ”تم اپنا پورا واقعہ سناؤ ورنہ جرم کا اقرار کرو۔“  
 نوجوان: ”اب مجھے کیا خوف ہو سکتا ہے۔ اب تو میں اپنا پورا تعارف کر سکتا ہوں سنئے۔ میرا نام ملیخا ہے۔ میں صدر روس کا بیٹا ہوں اور محلے خدریس کا رہنے والا ہوں۔ آپ میرے باپ کو بلا کر دریافت کر سکتے ہیں کہ میں چور نہیں۔ آپ میرے محلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ میں نے جو سکہ پیش کیا ہے۔ یہ وہی سکہ ہے۔ جو میں پر سوں لے کر گیا تھا۔ ایک دن کے اندر آپ نے یہ سکہ ناجائز قرار دے دیا آپ نے بہت اچھا کیا۔ جب ایک دن میں آپ کا ایمان، آپ کا یقین، آپ کا دین بدلا تو سکہ بھی بدل جانا چاہئے۔“

آپ میری باتوں پر تعجب میں کیوں ہیں۔ آپ ہی کے حکم سے کو تو ال ہمارے پیچھے لگا تھا کہ ملیخا اور اس کے دوستوں کو پکڑ لاؤ۔ جرم یہی تھا جو آج آپ کا ایمان بن چکا ہے۔ میں نے ان سارے ہاتھ کے بنائے ہوئے خداؤں اور اپنی جگہ پر طاغوت بن کر بیٹھنے والوں کی خدائی سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی



نبوت کی گواہی دی تھی۔ پرسوں۔ بس یہی میرا جرم ہے کہ آپ ناراض ہو گئے۔ آپ تو خود  
خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج آپ مسلمان ہیں۔

اے شہنشاہ! میں نے اور میرے نوجوان دوستوں نے کھلم کھلا یہ اعلان کیا تھا  
کہ ہمارا رب قیصر ڈیسیس (یعنی آپ) نہیں، بلکہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے  
(قیصر ڈیسیس کا نام لیا گیا تو شہنشاہ تھیو ڈوسیسی اور درباریوں کو اور بھی حیرت  
ہوئی) ہم نے آپ کو رب تسلیم نہیں کیا تو آپ نے ہمیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کا  
شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب ہم ساتوں نے آپ کا حکم سنا تو  
ہم نے طے کر لیا، کچھ بھی ہو ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ بنائیں گے  
اگر ہم ایسا کریں تو بہت بے جا بات ہوگی۔ پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری قوم  
تو اللہ رب کائنات کو چھوڑ چکی ہے اور اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل بھی نہیں ہے۔  
اے شہنشاہ! اب مجھے یہ کہنے میں کیا ڈر ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور ناجھ  
کون ہو سکتا ہے جو ایک خدا کے سوا دوسروں کو اپنا رب بنا گئے۔ اور حضرت عیسیٰ  
کو نبی نہ مانے۔

اے بادشاہ! ہم نے ذرا جلدی کی۔ اگر ہم ایک دن اور صبر کرتے تو آپ کا مسلمان  
ہونا دیکھتے۔ ہم اپنی غلطی کی اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم نے مشورہ کر کے راہ فرار  
اختیار کی۔ ایک غار میں جا چھپے۔ اللہ کو رازق ہم مان چکے تھے۔ ہمیں یقین تھا اللہ تعالیٰ  
ہمیں روزی دے گا۔

اے بادشاہ! جس وقت ہم نے یہ اعلان کیا اور بھاگے جا رہے تھے تو راستے میں ہمیں ایک وفادار کتا ملا۔ وہ ہمارے پیچھے چلا۔ ہمیں کھٹکا پیدا ہوا کہ اگر یہ ساتھ رہا تو ہمارا بھید کھل کر رہے گا۔ ہم نے اُسے ڈھیلے مارے۔ اسے بہت بھگایا۔ لیکن وہ پیچھے لگا رہا حیرت یہ تھی کہ وہ بھونکتا نہ تھا۔ ہمیں اس کی حالت پر رحم آگیا۔ ہم نے اُسے ساتھ لے لیا اور غار میں جا چھپے۔ وفادار کتا غار کے منہ پر اگلی ٹانگیں پھیلا کر سو رہا۔ گویا اس نے بتایا کہ پہلے اُسے کوئی قتل کر دے پھر سات دوستوں تک پہنچے۔ (نوجوان نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے حکیم صدوقی کی طرف انگلی اٹھائی) حضور! اس دربار میں دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ سب سے زیادہ سمجھدار معلوم ہوتے ہیں۔ یہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ایک جانور نے ہماری مدد کی۔ افسوس ہے انسان پر کہ وہ عیسیٰ کو نبی نہ مانے۔

(نوجوان نے یہ کہا تو حکیم صدوقی گھبرا گیا اور سارا دربار مسکرانے لگا) اس کے بعد ہم دوسرے دن جاگے تو آپس میں کہنے لگے کہ بھلا کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ پھر خود ہی کہنے لگے کہ شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم ہی سوئے ہوں گے۔ پھر ہم نے خود ہی کہا کہ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ پھر ہم کو بھوک لگی رائے یہ ہوئی کہ ہم اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ جا کر دیکھے سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔

میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ساتوں ساتھی کھاتے پیتے خاندان سے تعلق

رکھتے ہیں۔ سلیخا جو ہم میں سب سے بڑا ہے وہ آپ کے مصاحب کیموس کا لڑکا ہے۔ آپ کیموس سے دریافت کریں کہ میں جھوٹ نہیں کہتا۔ اور کیموس کی کرسی آپ کے دربار میں وہ ہے (نوجوان نے مڑ کر ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا لیکن پھر وہ ہٹا بٹکارہ گیا اور بولا۔ تعجب ہے آج کیموس کی کرسی پر دوسرا شخص بیٹھا ہے، حضور معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں قتل کر دیا گیا۔ کیونکہ وہ درپردہ ہمارا ہمدرد تھا۔ کاش کہ ایک دن اور اُسے زندگی مل گئی ہوتی۔ خیر۔ آگے ہمارا حال یہ ہے کہ مجھے چنا گیا کہ میں بازار جا کر کھانا لائوں۔ میں نے چاندی کے سکتے جیب میں ڈالے اور کسی سے بات کہنے بغیر باورچی کی دوکان پر پہنچا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہے کہ ایک دن میں شہر کی کاپیٹ ہو گئی۔ آج یہ شہر وہ شہر ہی نہیں جو پرسوں تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دن میں یہ کیسے کیا ہو گیا شائد کوئی معجزہ آپ نے دیکھا اسی لئے آپ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے۔ ورنہ دلیلوں سے تو کوئی ماننے والا نہیں۔ انسان کج فہم واقع ہوا ہے خیر۔

میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ بڑی ہوشیاری سے جانا۔ اگر پہچان لئے گئے تو ہماری خیر نہیں۔ ہم سب سنگسار کر دئے جائیں گے یا پھر یہ ہوگا کہ ہمیں پکڑ کر پھر اس دین اور دھرم کی طرف لانے پر مجبور کیا جائے گا جسے باطل سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔

میں بڑی ہوشیاری سے شہر میں آیا۔ میں نے جیسے ہی سکے باورچی کو دیا۔ اس نے شور مچا دیا۔ کو تو ال صاحب آپہونچے۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ اب جبکہ

آپ خود حضرت عیسیٰ کو نبی تسلیم کر چکے آپ ہمارے ساتھیوں کا اعزاز فرمائیں گے۔ آپ مجھے حکم دیں تو میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو جا کر یہ خوشخبری سناؤں اور یہاں لے آؤں۔

نوجوان اپنا بیان دے کر خاموش ہو گیا۔ قیصر تھیوڈوسیوس اور درباری سب حیران تھے کہ نوجوان یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ نوجوان تم اپنا محلہ اپنا مکان اور اپنے خاندان والوں کو پہچان لو گے؟

”کیوں نہیں!“

اور پھر قیصر سارے درباریوں اور حکیم صدوقی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ آگے آگے نوجوان ایک طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ راستوں اور عمارتوں کو دیکھ کر ششدر ہو رہا تھا۔ بار بار کہہ رہا تھا۔ ”خدا یا! ایک دن میں یہ کیسا معجزہ ہو گیا کہ شہر کی ہر چیز بول گئی۔ وہ چلتے چلتے ایک عالی شان محل کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس محل کی بنیاد پڑانے پتھروں کی تھی۔

”اس جگہ تھا میرا مکان مگر یہ محل نہ تھا۔ میں نے بنیاد کے پتھروں سے پہچانا۔“

نوجوان نے محل وقوع بتا دیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو دیکھ کر اہل محلہ جمع ہو گئے۔ صاحب مکان بھی گھبرا کر باہر نکل آیا۔ ایک اجنبی نوجوان کو دیکھ کر سب حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے مکان کے سارے افراد بچے بوڑھے جوان مرد اور عورتیں سب نوجوان کے سامنے لائے گئے اور نوجوان ہر ایک کو دیکھ کر کہتا رہا

کہ میں اسے نہیں پہچانتا۔ گھر کے ایک پر ضعیف نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ ہمارے گھر کے افراد کی جانچ پڑتال کیوں ہو رہی ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم شریف شہری ہیں اور ہم نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا ہے۔

نوجوان خاموش کھڑا تھا۔ اب اُسے ڈر لگنے لگا کہ وہ اپنا تعارف ٹھیک ٹھیک نہ کر اسکا۔ ضرور قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ نے بھانپ لیا اس نے کہا۔  
”نوجوان ڈرو نہیں۔ تم نے اپنے باپ کا نام کیا بتایا تھا؟“

”صدر روس!“

بادشاہ نے اس پر ضعیف سے پوچھا، ”تم اس نام سے واقف ہو؟“

پر ضعیف: حضور! صدر روس میرے پردادا کا نام تھا“

قیصر: تمہارے پردادا کو کتنا زمانہ ہوا؟“

پر ضعیف: ”لگ بھگ تین سو برس“

قیصر: تمہارے پاس شجرہ نسب ہے؟“

پر ضعیف: ”جی حضور! ہم شجرہ نسب کی حفاظت کرنے والے ہیں“

قیصر: ”تم نے اپنے دادا کو دیکھا ہے؟“

پر ضعیف: ”جی دیکھا ہے۔ میں نوجوان تھا جب وہ اللہ کو میاں سے ہو گئے تھے۔“

قیصر: ”تمہارے دادا کا کوئی اور بھائی بھی تھا؟“

پر ضعیف: جی نہیں، وہ اکیلے تھے۔ میں ان کا پوتا ہوں اور ان کا جائز وارث۔

اگر کوئی اور دعویٰ وار ہے تو وہ یقیناً ہماری جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔  
قیصر: ”تم گھبرا کیوں گئے۔ اس نوجوان کو دیکھو، یہ کہتا ہے کہ میں صدروس  
کا بیٹا ہوں اور اس مکان کا مالک۔“

پریضعیف: ”ہی ہی ہی ہی حضور! ہم سے بذلہ سنجی فرماتے ہیں۔ ہمارے لئے آپ  
کی بذلہ سنجی باعثِ فخر ہے۔ ہی ہی ہی ہی۔ یہ نوجوان یقیناً پاگل ہے۔“  
قیصر: ”بڑے میاں! سنجیدہ بنو۔ جو پوچھا جائے صاف صاف بتاؤ۔ اپنا شجرہ  
نسب لاؤ۔“

پریضعیف: ”بہت اچھا حضور! پریضعیف نے گھر کے ایک آدمی کو اشارہ  
کیا۔ وہ جا کر شجرہ لے آیا۔ بادشاہ کے ملاحظہ میں پیش کیا۔“

قیصر: ”یہ دیکھو بڑے میاں! تمہارے دادا کے نام کے برابر کس کا نام لکھا ہے؟“  
پریضعیف: ”(شجرہ دیکھ کر) مگر حضور! ملینا، میرے دادا کا بھائی تو لاپتہ ہو گیا تھا  
وہ تو عیسیٰ پر ایمان لانے کے جرم میں معتوب بارگاہ تھا۔ اس لئے اپنے ساتھیوں  
کے ساتھ بھاگ گیا تھا۔ یہ نوجوان ملینا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تنہا اپنے دادا کی  
جائیداد کا وارث ہوں اور یہ نوجوان مجنون ہے۔“

قیصر: (اپنے وزیر آمار قدمیہ سے) ”کیا تم بتا سکتے ہو کہ تین سو برس پہلے  
کس قسم کا لباس پہنا جاتا تھا؟“

وزیر: میں اپنی واقفیت کی بناء پر پورے دثوق سے کہتا ہوں کہ

اس نوجوان کا وہی لباس ہے۔

پیر ضعیف: ”حضور یہ نوجوان وزیر صاحب سے ملا ہوا ہے اور خاص بات ہماری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کوئی عقلمند آدمی یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا کہ یہ نوجوان تین سو برس گزرنے پر نوجوان ہی رہا۔

قیصر: وہ تو یہی کہتا ہے اور شہوت میں اپنے ساتھیوں کو پیش کرتا ہے۔“  
پیر ضعیف: اگر وہ یہ ثابت کر دے اور ایک عقلمند آدمی مان لے تو میں اسے اس کا حق دیدوں گا۔

قیصر تھیوڈوسیسی نے حکم دیا کہ کسی تاخیر کے بغیر غار کی طرف چلنا چاہیے۔ وہ اپنے درباریوں، حکیم صدوقی اور ملیخا کے گھروالوں اور دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ ملیخا کی رہنمائی میں غار کی طرف چلا۔ غار کے پاس پہنچا تو کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ ملیخا اسی طرف بڑھ گیا۔ سارا مجمع اس کے پیچھے تھا سب غار کے پاس پہنچے ملیخا نے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ملیخا اندر گیا۔ اس کے ساتھی پریشان تھے انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ واقعی ہم سب پہچانے گئے۔ آؤ دعا کریں کہ اے اللہ جب ہمیں پہچانسی دی جائے تو ہم ثابت قدم ہوں۔ اے اللہ! ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں اس حالت میں موت آئے کہ ہم مسلمان ہی ہوں۔

ملیخا نے سب کو دلا سا ریا۔ حال بتایا اور کہا کہ نہ جانے کیا معجزہ ہوا کہ ایک

دن میں شہر اور شہر والوں کی کایا پلٹ گئی۔ پھر اس نے ماجرا کہہ سنایا اور کہا کہ بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔

”ہنیں نہیں ملیخا! تم کو دھوکہ دیا گیا۔ اس طرح دھوکے سے بادشاہ ہمیں پکڑنا چاہتا ہے۔“

”مليخا نے سب کو سمجھایا اور آخر کار سب کو غار کے باہر لے آیا۔ بادشاہ سب سے ملاحظہ پوچھا۔ سب نے کہا کہ مليخا نے جو بیان دیا ہے وہی ہمارا بیان ہے۔ لیکن اب ہم اس غار سے باہر جانا نہیں چاہتے۔ ہمیں پھر نیند لگی ہے۔ اور یہ کہہ کر مليخا نے مليخا کا ہاتھ پکڑا اور اندر جا کر سب لیٹ گئے اور لیٹتے ہی سو گئے۔ پھر لاکھ آوازیں وہی گئیں لیکن وہ نہ جا گئے۔

اب بادشاہ حکیم صدوقی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا۔ فرمائیے اب آپ کیا کہتے ہیں؟“

حکیم صدوقی کو عینی دلیل مل گئی تھی۔ اس نے اقرار کیا کہ حضرت عیسیٰ نبی برحق ہیں اور آخرت کا دن بھی برحق ہے۔

شہنشاہ تھیوڈوسیوس کے حکم سے غار کو تیخال کر دیا گیا۔ پتھر چنواؤں سے گئے اور کندہ کر دیا گیا کہ یہ ان سات نوجوانوں کی یادگار ہے جو اب سے تین سو برس پہلے اس جرم میں وطن سے بھاگ گئے تھے کہ انہوں نے اللہ کو ایک اور عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانا تھا۔ اور ان کا عقیدہ تھا کہ ایک دن ایسا آئے والا ہے جب ہر ایک کو خدا



کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اور میں اور حکیم صدوقی اور میری رعایا گواہ ہے کہ  
 یہ ساتوں ۳۰۹ برس تک اس غار میں سوتے رہے اور پھر میں نے ان سے  
 ملاقات کی۔

(تھیوڈوسیوس قیصر روم ۶۲۵ء)

---

# ہاں یہ کچھ لیکن؟

چائے پیتے پیتے اچانک مجھے وہ بات یاد آگئی اور میں اُسے کہہ دینے کے لئے بیتاب ہونے لگا۔ آخر میں نے پاپاسے کہہ ہی دیا۔

”آپ کو ایک بات بتا دوں؟“

”ضرور۔ لیکن اپنی امی کی شکایت کرنی ہو تو ذرا اٹھ جاؤ۔ انھیں اپنے کان بند کر لینے دو۔“ پاپا نے کہتے کہتے مٹی کی طرف دیکھا اور مٹی بڑا سا منہ بنا کر میری طرف دیکھنے لگیں میں نے کہا۔

”ہنہیں پاپا، میں شکایت نہیں کروں گا۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ آج دوپہر کو وہ آئے تھے“  
”وہ کون؟“ پاپا نے پوچھا۔

”وہی، امی کے وہ!“ اور میں نے انگلی اپنے سر پر اس طرح گھمائی جیسے میں بتا رہا تھا کہ جن کے سر پر جٹائیں ہیں اور پھر اپنی دائرہی پر ہاتھ پھیر کر منہ جو پھیلا یا تو پاپا ہنس پڑے، بولے:

”اچھا میں سمجھ گیا۔ مٹی کے وہ! تو پھر کیا باتیں ہوئیں اور کتنی دکشنا بھینٹ

کی گئی ان کو بے۔

”یہ تو میں نہیں جانتا۔ ممتی سے ہی پوچھئے!“

”اگر ان کی طرح ہندوستان کی ساری عورتیں سادھوؤں پر عقیدت کے پھول بچھا اور کرنے لگیں تو لوگ انجینئرنگ اور ڈاکٹر بننے کے بجائے سادھو بننے کی ٹریننگ لینے لگیں گے اور داڑھی مونچھ منڈوانے کے بجائے جٹا دھاری ہو جائیں گے۔ پاپا نے ممتی پر بھرپور طنز کیا لیکن ممتی نے بُرا نہ مان کر اس طرح پاپا کو سمجھایا :-

”دھرم کی باتوں میں مذاق نہیں کرتے۔ وہ واقعی پہنچے ہوئے مہاتما ہیں۔ کتنا صحیح صحیح بتاتے ہیں آگے کا حال۔“

”ان سے زیادہ جوش میں جانتا ہوں ممتی! میں جھٹ بول پڑا۔ ممتی نے گھور کر

مجھے دیکھا۔ بولیں :-

”وہ کیسے ہے“

”لاؤ ممتی! دکھاؤ اپنا ہاتھ۔ ایسی ایسی باتوں جو سولہ آنے ٹھیک ہوں۔“ میں نے ممتی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔

”چل ہٹ! تو چپ چاپ چائے پی۔“

”آپ میرے جوش کی قدر نہیں کرتیں۔ خیر کوئی بات نہیں ارے الکا! لا تیرا ہاتھ دیکھوں!“ میں نے اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ مٹا ہاتھ پکڑ لیا۔

”ہاں تو الکا!..... میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ تیرا ہاتھ دیکھ کر بھید کی

بات بتاؤں گا۔

”کیا بے پایا اور مٹی ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔

”الکا! تو اپنی مٹی کی بیٹی ہے۔ پایا زور سے ہنسنے۔ مٹی بھی مسکرانے لگیں لیکن ان

کے تیور کہہ رہے تھے کہ تو سادھوؤں کی ہنسی اڑاتا ہے اور الکا مٹی کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ ان سے میری بات کی تصدیق کرانا چاہتی ہو۔

”اول مے لی امل بے“ پھر الکا نے مجھ سے پوچھا۔

”ارے ہاں تیری عمر تو بتانا بھول ہی گیا۔“

”بتاؤ۔“

”بالکل سچی بات بتاؤں!“

”دیکھ اوٹ پٹانگ نہ بکنا۔“ مٹی نے ہدایت فرمائی

”سچ بات کہنے سے کیا ڈرنا۔ کیوں نہ پایا! میں نے پایا کی طرف دیکھا اور انھوں

نے سر ہلا کر ہوں“ کرتے ہوئے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میں نے کہا:-

”ہاں تو الکا! تیرے ہاتھ کی ریکھا بتاتی ہے کہ جب تک تو زندہ ہے تب تک

نہ مرے گی۔!“

یہ سن کر الکا بہت خوش ہوئی اس نے جیب سے ایک پیسہ نکالا اور کہا لوبا لوبا

دچھنا!“ اور پایا اور مٹی دونوں ہنس پڑے۔ میں نے پیسہ لیتے ہوئے پھر کہا۔

”دیکھ الکا! جو تشی جو کچھ کہتا ہے، وہی ہوتا ہے، جیسے سادھو بابا نے

بتایا کہ پاپا کی ترقی اسی وقت ہوگی جب ایک چھوٹا موٹا مکیہ کیا جائے گا۔ میں نے بھید بتا دیا اور پاپا سُن کر بوکھلا گئے۔

”کیوں جی! یہ سادھو کیا میرا ”صاحب“ ہے جو مجھے ترقی دے گا؟“  
 ”صاحب نہ سہی، صاحب کا کچھ لگتا ہوگا۔ کیوں نہ ممتی؛ میں نے بھولابن کر کہا۔  
 ”یہ کیا، تمہارے کارن بچے بھی میرا مذاق اڑانے لگے۔ ممتی نے جھنجھلا کر کہا۔ اپنا  
 اپنا عقیدہ اور وسواس ہے۔ پھر میں جو کچھ کرتی ہوں، تم لوگوں کے بھلے ہی کے لئے تو۔  
 اچھا اب یہ بکو اس بندہ ہونی چاہئیے۔“

”بک بک خود کرتی ہو، پاپا زور سے بولے۔ اسی وقت الکا بول اٹھی۔

”پاپا اچھا لو کئے لیا تا۔ ماں باپ کو بچوں کے چھاننے لگنا نہیں چاہئے بچوں پل  
 بلا اچھل پلتا ہے۔“

”اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ جب ماں باپ لڑتے ہوں تو بچوں کو آنکھیں بند کر لینا  
 چاہئیے۔ چلو تم دونوں اپنی آنکھیں بند کرو۔ پاپا نے ڈانٹ پلائی۔

”ارے ہاں۔ باتوں میں بھول ہی گئی۔ ارے اوسارو! ادھر آنا ذرا! ممتی نے  
 نوکر پکارا۔

”آیا بائی صاحب“ کہہ کر سارو سامنے آیا تو ممتی نے کہا ”تھوڑا سا گاجر کا حلوہ  
 سادھو بابا کو دے آنا ان کی کٹیا پر۔“

”اور ان کا سامان ہے“ سارو نے یاد دلایا۔

”میں نے چھ روپے دیدئے ہیں۔ وہ خود انتظام کر لیں گے۔ تو جاذرا جلدی نہیں  
تو سورج ڈوب جائے گا۔“

سمار و سوتی (باورچی خانے) کی طرف چلا گیا۔ پاپا نے بڑی متانت سے پوچھا۔

”کتنے روپے دئیے ہیں اس کو؟“

”صرف بیس روپے۔“

”یعنی بیس روپے میں مجھے ترقی دلواؤ گی؟“

”ترقی کی بات نہیں۔ سادھو بابا کے مندر میں ایک اوشی کے دن کیرتن ہونے والا

ہے۔ دھرم دھیان کے لئے میں نے بیس روپے بھینٹ کئے تو کیا غضب ہو گیا!“

میں نے جلدی جلدی چائے پی۔ اس کے بعد کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کھیلنے جانا

ہے۔

سمار نے ایک پلیٹ تیار کر لی تھی۔ وہ مجھ سے تین چار ہی برس بڑا تھا۔ یہی میں کیس

سال کا۔ مئی اس کو اس لئے پسند کرتی تھیں کہ وہ روز سویرے پوجا پاٹ کر لیتا تھا۔ ایک

سال ہونے کو آیا جب سے وہ ہمارے گھر کام کرتا ہے۔ مئی کے چھوٹے سے پوجا گھر (عباد

خانہ) کا پجاری بھی وہی تھا۔ پہلی بار جب سادھو بابا ہمارے گھر آئے تھے تو سب سے پہلے

سمار نے ہی لیٹ کر انھیں ڈنڈوت کی تھی۔ مئی نے جب یہ دیکھا تو وہ کھل اٹھیں ان

سادھو بابا سے مئی کو اتنی عقیدت کیوں تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انھوں نے مئی کے

خاندان کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ کے خاندان والوں کو

اس لئے جانتا ہوں کیونکہ میرے پردادا اپنے زمانے میں آپ کے خاندان کے پروہت تھے۔ دھرم سے متعلق سارے کام انہی سے کراتے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ تین پڑھیوں کے بعد پھر وہی رشتہ قائم ہو رہا ہے۔

بابا نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب ٹھیک تھا۔ میں بھی بھونچتا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں وہ بابا مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ سہارا ان کے پر دبارہا تھا۔ بعد میں میں نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ وہ مجھے سمجھانے لگا۔ ”سادھو کی سیوا کرنے سے سورگ ملتا ہے۔“ سہارو کی اور سبھی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں مگر جب وہ پنڈتائی جتنا تو میری تیوریاں چڑھ جائیں۔

اب بابا جی ہر ہفتہ ہمارے یہاں آنے لگے۔ جتنی ان کو ہر تیوہار پر بھوجن کراتیں ایک بار بابا جی آتے ہی بولے۔ ”بیٹی تم اُداس سی لگتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی چٹھی آئی ہے جس میں کوئی بری بات ہے۔“

مئی چونک پڑیں اور بڑی حیرت کے ساتھ بابا جی کو دیکھنے لگیں۔ ”آپ نے ٹھیک

کہا بابا!“

”تم کو اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے بڑی چنتا ہے۔“

”ہاں بابا! یہی بات ہے۔ تو کیا میں نیسکے جاؤں؟“

”اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔“

ایک بار سادھو بابا میرے گھر آئے تو مجھ سے بولے ”تم کو اپنی عادتیں ٹھیک

کر لینی چاہئیں۔ تم نے سمارو کے بلاوجہ طمانچہ مارا تھا۔ اس طرح غصہ کرنے سے انسان پاپ میں بندھ جاتا ہے۔“

پاس ہی کھڑا ہوا سمارو اچانک گڑگڑا کر بولا۔ ”باباجی! آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے میں نے اس کا بُرا نہیں مانا۔ پھر..... ہے۔“

”سادھوؤں سے کیسے چھپ سکتا ہے؟“

”لیکن باباجی! ہمارے گھر کی باتیں آپ کو کیسے معلوم ہو جاتی ہیں؟“

”بیٹا! تم یہ کیوں بھولتے ہو کہ میں تمہارے گھر کا پرودہ تہ ہوں۔ تم سب کی جڑ کنڈلیاں میرے پاس ہیں۔ میں جوتش کا ودوان ہوں۔ یوگی ہوں۔ تمہارا سب کا حال میں کیسے نہ جانوں گا؟“

میں حیران تھا جب معمولِ رحمت کرتے ہوئے اس بار بھی امی نے دس کانوٹ نہیں بھینٹ کیا تھا۔ میں نے یہ بات پایا کو بتائی اور ان سے پوچھا ”باباجی کس طرح ہمارے گھر کی ساری باتیں جان لیتے ہیں؟“ پایا نے میرے سوال کا جواب تو نہیں دیا۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ ”اب بہت سنبھل کر رہنا ہوگا۔ نہ جانے بابا گھر کی کس چیز پر اُنگی رکھ دے اور تمہاری مٹی وہ چیز اُسے دے دیں۔“

اس کے بعد شام کو مٹی نے پایا سے کہا۔ ”وہ کہہ رہے تھے کہ اس ہفتہ میں کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔“

حادثوں کی تو ہمارے گھر باڑھ آئی ہے۔ باباجی ایک حادثے کو کہتے ہیں۔“



”ہمارے گھر جگوان کی بڑی کڑی ہے۔ حادثے ہمارے یہاں کیا ہے؟“  
 ”کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ ایک بڑا حادثہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ اگر میں ان بابا لوگوں کے  
 بارے میں کچھ تم کو بتاؤں تو گھر میں فساد برپا ہو جائے۔“

ممی نے بڑا سامنہ بنایا لیکن پھر صبح پاپا کو منہ بنانا پڑا۔ نہ جانے کیا بات تھی۔ صبح  
 کو ناشتہ کچھ ٹھیک سے نہ بنا تھا۔ نہ چائے اچھی لگ رہی تھی اور نہ پوریاں۔ پاپا کچھ یوہی  
 سا کھانی کر دفر چلے گئے۔ دوسرے دن دودھ والے نے حسب معمول جب صبح کو کال پیل  
 دیائی تو ممی دروازہ کھولنے لگیں۔ دروازہ کھلا دیکھ کر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں تو  
 کنڈی لگا کر سوئی تھی۔ ان کی زبان سے نکلا پھر جب انھوں نے دیکھا کہ دروازے  
 کی بغل میں سمار و بندھا پڑا ہے اور اس کے منہ میں کپڑا کھونسا ہوا ہے تو چونک سی پڑیں  
 اور انھیں خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ممی نے ہڑبڑا کر پاپا کو جگایا اور پھر گھر کی ہر چیز دیکھی  
 جانے لگی جہاں سمار و سوتا تھا۔ وہیں بغل میں میری سائیکل کھڑی رہتی تھی۔ سائیکل اب  
 وہاں سے غائب تھی۔ میں نے سمار و کے منہ سے کپڑا نکالا تو وہ رو پڑا۔ اس نے بتایا کہ رات  
 میں چور آئے تھے۔

ادھر ممی نے کہا: ”والان میں سلامتی مشین رکھی تھی۔ وہ نہیں ہے۔ رسوئی کے برتن  
 نہیں ہیں۔ ممی تو جیسے پاگل ہو گئی تھیں۔ خیریت یہ تھی کہ جن کڑوں میں ہم سوتے تھے وہاں  
 چور نے ہاتھ نہیں مارا تھا۔ باورچی خانہ ہمارے کمرے سے الگ تھا۔ بس چوروں کا  
 چھاپا کمرے سے باہر ہی پڑا۔“

پاپا نے فوراً گرج سے کارنکالی اور تھانے کی طرف چل دئے۔ محلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ میں نے بھی سمارو سے واردات کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ معلوم ہوا کہ چورچھت پر سے صحن میں اترے پھر سب سے پہلے مجھے بے بس کر دیا۔ اس کے بعد کنڈھی کھول کر جو لے جانا تھا لے گئے۔ پاپا لوٹے تو ان کے ساتھ تھانیدار صاحب بھی تھے۔ لوگوں نے انھیں گھیر لیا۔ تھانیدار صاحب نے بیانات لئے اور چلے گئے میں نے محسوس کیا کہ پاپا میرے وہ پاپا جو بڑے خوش مزاج تھے۔ آج ان کا مزاج چڑچڑا سا ہو گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی۔

دوسرے دن رات کے وقت ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے پاپا کچھ اداں

تھے۔ مٹی نے کہا:۔

”دیکھا سادھو بابا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ حادثہ ہونے والا ہے۔“

”بھارت میں جائے تمہارے بابا کا باپ!“

”اگر تم بھی کچھ خیر خیرات اور دان پُن کرتے رہتے تو کاہے کو ایسا ہوتا؟“

”میں کہتا ہوں چپ رہو جی! اگر میں ایسا ہوتا تو آج گھر کا نصفایا ہی تھا۔“

میں نے پاپا کے مزاج کی گرمی محسوس کر لی۔ سوچا کہ چپ چاپ اٹھ کر کھسک جاؤں

اگر کہیں پاپا اور مٹی کا جھگڑا بڑھا تو پھر مجھے روزنا پڑے گا۔ لیکن اسی وقت بھگواں نے

ننھی الکا سے ایسی بات کہلوادی کہ جتنی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ ابھی تک سہمی

ہوئی تھی۔ بول پڑی۔

”ایک منت پایا۔ پاپے لے ام انکھیں بند کر لیں تو لائے“ سنکر پایا اپنا غصہ بھول گئے اور میں بھی کھکھلا پڑا۔ جتی نے اُسے کھینچ کر گود میں بٹھالیا۔ میں نے دل ہی دل میں الکا کو بڑی ہی دعائیں دے ڈالیں۔ کسی کہنے والے نے سچ ہی کہا ہے کہ کبھی کبھی بچوں کی بھولی باتیں والدین کے بڑے بڑے جھگڑوں کو ٹالنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

دوسرے دن جب صبح سادھو بابا ہمارے گھر آئے تو پایا گھر ہی پر تھے۔ پایا کے بارے میں میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ سادھوؤں سے لاکھ بزار سہی لیکن اگر کوئی سادھو گھر پر آجائے تو وہ بڑے احترام سے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ بابا جی کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ انھیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ جتی نے کہا :-

”بابا جی! یہ تو بڑا غضب ہو گیا۔“

”میں سب جانتا ہوں۔“

”آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا“ پایا نے پوچھا۔

”نہیں پایا۔ بابا جی نے اپنے دھیان گیان سے پتہ لگالیا ہوگا۔ کیوں نا بابا جی۔“ میں

نے پوچھا۔

سادھو بابا میری یہ طنز کی بات سمجھ گئے۔ مسکرا کر بولے۔ ”ٹھیک ہے بیٹا! میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تجھے بائیسکل مل جائے گی!“

کہاں سے ملے گی بابا جی؟“ میں نے جھٹ پوچھا۔

”کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی پولیس والے تلاش کر ہی رہے ہیں۔“

”اور اگر پولیس والے نہ تلاش کر سکے تو ماں باپ ہی سے مل جائے گی۔ کیوں نا باباجی! پاپا نے کڑی چوٹ کی لیکن باباجی اس بات کو چنی گئے۔“ بائیسکل کہیں کنوئس میں ملے گی“ یہ کہہ کر باباجی سنبھل کر بیٹھ گئے اور انھوں نے اپنا آسن ٹھیک کیا۔

ان کے جانے کے بعد پولیس والا خبر لے کر آیا کہ سائیکل مل گئی ہے پوچھا گیا۔ کہاں ملی ہے؟ تو بتایا کہ نواب باغ میں کنوئس کے اندر۔

پاپاجی ہنکا ہنکا ہو کر رہ گئے۔ مٹی کو اس سے اچھا موقع اور کب مل سکتا تھا۔ بولیں۔ دیکھا میں جو کہتی تھی کہ بابا ٹھیک ہی کہتے ہیں لیکن تم کو شواہس ہو تب تو!“

اس بار میں اور پاپا کوئی جواب نہ دے سکے۔ پولیس والا کہہ رہا تھا:-

”دیکھئے آج کل شہر میں چوریاں بہت ہونے لگی ہیں آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ کل ڈپٹی کلکٹر کے یہاں بھی چوری ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے دو چوریاں ہوئیں۔ دونوں بڑے بڑے افسروں کے یہاں۔ ایسے چالاک ہیں چور، آج تک پتہ نہ چلا۔“

”رام رام! ان کی پتی تو بڑی دھرم دان ہیں۔ بڑا پُن دان کرتی ہیں پھر بھی.....“

تم بھی تو بڑی دھرم دان ہو۔“ پاپا نے پھر بات ماری اور می کچھ سوچ کر چپ رہ گئیں

اب پاپا ہر وقت فکر میں رہنے لگے۔ انھوں نے پہلے تو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن جب ان کا تبادلہ ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تبادلہ کا آرڈر آنے سے پہلے ریفرور ان کی زبان سے سنا تھا کہ اس جگہ اور اس شہر کے لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہو گئی ہے۔

سمارو کونوٹس دے دیا گیا۔ مٹی تو چاہتی تھیں کہ وہ ساتھ چلے لیکن پاپا نے صاف

انکار کر دیا۔ سمارو نے بتایا کہ اب وہ اپنے گاؤں چلا جائے گا۔ یہاں نہ ایسی دھرماتما لکن ملے گی اور نہ میں رہوں گا۔ وہ بھی اپنے گاؤں کو جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔

کار میں سامان لڈ گیا۔ اباجان نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا: چل کر پٹرول بھرو الیں۔ پٹرول پمپ پہنچے تو مئی نے کہا۔ اب ادھر آگے تو ذرا اور آگے بڑھا لو چلتے وقت باباجی کے درشن کر لیں۔ پاپا نے مئی کی زبان سے یہ سنا تو ماتھے پر تسکین پڑ گئی لیکن مئی کی بات نہ ٹال سکے۔ کار کا رخ باباجی کی کٹیا کی طرف کر دیا۔ منٹ بھر میں کٹیا کے سامنے سڑک پر کار جا رہی۔ ہم سب اترے۔ سڑک سے پیدل ہی کٹیا کی طرف چلے۔ پاس پہنچے تو ایک دم سب رُک گئے۔ کٹیا کے آگے ہماری طرف پیٹھ کئے سادھو جی بیٹھے بھنگ کے دم لگا رہے تھے اور نعل میں سمارو بیٹھا ہوا چلم پی رہا تھا اور بابا سے کہہ رہا تھا۔

”لو، ان کی بدلی ہو گئی اور وہ چلے گئے۔“

بس یہی سُن کر ہم سب لوگ رُک گئے اور سوچنے لگے کہ سمارو یہاں کیوں ہے پھر سنائی دیا۔ باباجی کہہ رہے تھے: جانے دے ان کو۔ تو نے اچھا کام کیا۔ ویسے بھی میرے ایجنٹ تیری طرح دوسرے بڑے گھرانوں میں نوکر ہیں کہیں نہ کہیں پھر تجھے چپکا دوں گا۔“

میں نے وقت پر اس گھر کی ایک ایک بات آپ کو بتا دی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی جاسوسی کی میں نے اچھا خاصہ بے وقوف بنایا ان کو۔“

”یہ تو ہمارا دھندا ہی ہے۔“

”گرو جی۔ وہ چوری کا مال بکایا نہیں۔“

”ابھی تو نہیں بکا۔ سائیکل تو واپس ہو گئی۔ برتن بیچنے کے لئے مراد آباد بھیج دئے گئے ہیں اور سلمانی، مشین بریلی کو پرنزے تبدیل کرانے۔ اور بھی سامان ہے۔ ڈپٹی کلکٹر صاحب کے یہاں کا اور دوسرے مکانوں کا بھی۔“

”گرو جی! میری ہتھیلی میں کھلی مہر ہی ہے۔ آج کہیں بھاری رقم ملنی ہے۔“

باہر کھڑے ہوئے میں نے مٹی نے اور پاپا نے یہ باتیں سنیں۔ پاپا نے دبی زبان سے کہا۔ ”رقم نہیں تیرے ہاتھوں کو ٹھکریاں ملیں گی۔ اور یہ کہہ کر وہ واپس ہوئے تو مٹی اور میں دونوں پیچھے پیچھے چلے۔ آکر کرائیں بیٹھے پاپا سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچے پھر کیا ہوا؟ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اب کیا ہوا ہوگا۔ پھر پولیس نے کتیا پر چھاپا مارا۔ چوری کا بے شمار مال برآمد ہوا۔ پھر مقدمہ، پھر بابا کے پورے گروہ کا صفایا وغیرہ۔“

یہی کہانی کے آخر کا حصہ مختصر کر کے میں نے کہانی کو ختم کر دیا۔ یہ کہانی ایک ہندی رسالے سے لی ہے۔ اس کہانی میں ہندوستان کے ایک رستے ناسور کی نشاندہی کی گئی ہے۔ لیکن ہم سادھو بابا کے نام کے بدلے سیرجی اور ان کی معتقد فیملی کے بدلے کسی مسلمان گھرانے کا ذکر کر دیں۔ تو یہی کہانی اس ماحول کی ترجمانی کرنے لگے جو پرست اور دین سے ناواقف مسلمانوں کا ماحول ہے۔ آپ سوچئے کیا ہمارا سماج ایسے لوگوں سے خالی ہے جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ: میں یہ کچھ لیکن نظر آتے ہیں کچھ۔!

## صلح کافر شتہ

کھیلتے کھیلتے ننھے سعید کے گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ اٹھائی۔ اب دیکھنے لگا۔ یہ کیسے جڑے۔ وہ سوچتا رہا پھر دوڑ اپنی امی کے پاس گیا اس کی امی اپنے کمرے میں منہ پیٹے پڑی تھیں۔ ”امی! اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔“ اس کی امی نے ایک نظر اُسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے انہوں نے جھٹک دینے والے انداز سے کہا: ”میں کیا کروں، میرا دل خود ٹوٹ گیا ہے۔“ بھولا سعید کچھ نہ سمجھا۔ وہ ذرا دیر کھڑا رہا۔ مطلب پورا نہ ہوتے دیکھ کر وہ اپنے ابا کے کمرے کی طرف گیا۔ اس کے ابا آرام کرسی پر اُداس بیٹھے تھے۔ نہ جلنے کیا سوچ رہے تھے۔ ننھا ان کے پاس گیا۔ ”ابو میاں! دیکھئے یہ ٹوٹ گیا“

تو میں کیا کروں! میرا دل خود ٹوٹا ہوا ہے۔“ اس کے ابا نے بھی وہی جواب دیا وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ ذرا دیر کھڑا رہا۔ سوچتا رہا پھر برآمدے میں آیا۔ اس نے کپڑے کے کچھ چیٹھڑے اکٹھا کئے۔ اپنے ڈبے سے دو رنگال لایا اس نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو ٹوٹی ہوئی جگہ پر رکھ کر ڈور سے باندھ دیا اس کے بعد گھوڑے کو کھڑا کیا تو ٹانگ

الگ ہو گئی اور گھوڑا ایک طرف گر گیا۔ اس نے جھٹ ہاتھوں پر سنبھال لیا وہ پھر سوچنے لگا۔ وہ ایک لوٹے میں پانی لے آیا۔ باورچی خانے سے تھوڑا سا اٹھالایا۔ آنا پانی میں گھولایا اپنے خیال میں اس نے لمبی تیار کر لی۔ اس مٹی سے اس نے ٹانگ کو چپکا کر پھر پھیرے پلینے اور ڈور سے باندھ دیا۔ اس کے بعد گھوڑے کو کھڑا کیا۔ گھوڑے کی ٹانگ پھر الگ ہو گئی وہ گرنے لگا تو سعید نے پھر سنبھال لیا۔ بے چارہ آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ وہ پھر امی کی طرف بھاگا۔

امی! ہمیں جڑتا!

ابھی اس کی امی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ صحن سے اس کے ابائی آواز آئی۔ ”اچھا تو محترمہ! سنبھالئے اپنا گھڑیہ میں نے آپ کے حقوق ادا کرنے میں اپنی مقدرت سے بڑھ کر حصہ لیا لیکن تمہارے جائز اور ناجائز سارے خرچ برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ تم کو تو کسی نواب سے شادی کرنی تھی۔

آخری جملہ سن کر سعید کی امی تڑپ گئی۔ ترکی بہ ترکی جواب دیا۔

”میرے باپ نے تو آپ ہی کو نواب سمجھا تھا۔ کیا معلوم تھا کہ یہ نواب خزانے کا سانپ ہے۔ آپ نے کب اور کون سا ارمان میرا پورا کیا جب کچھ کہا۔ خالی جیب دکھائی آپ کیوں گھر چھوڑیں گے۔ میں خود چلی جاؤں گی۔

میں خزانے کا سانپ ہوں؟“

”تو آپ نے نواب سے شادی کرنے کا طعنہ کیوں دیا؟“



اس طرح کی جھڑپ سُن کر سعید پھیر وہاں سے اپنی دھن میں بھاگا۔ اب کی بار وہ اپنے ابا کے کمرے میں گیا۔ میز سے گوندانی اُٹھائی۔ اس نے گوند سے گھوڑے کی ٹانگ جوڑی پھر چھتھڑوں سے پسیٹ کر تاگے سے باندھا۔ تھوڑی دیر دیکھتا رہا۔ وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں اس کے آبا اور امی میں تو تو میں میں ہو رہی تھی۔ سعید کو اس جھڑپ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب آدائیں ذرا کرخت ہو جاتیں تو وہ ادھر دیکھ تولیتا لیکن اُسے اپنے گھوڑے کی ٹانگ کی فکر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا تو وہ کھڑا رہا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بُرقع اڑھ کر برآمدے کے برابر سے یہ کہتی ہوئی نکلیں۔ ”روز روز کے یہ ٹھو کے کون سنے میرے باپ دور یوں کے لئے اُکتانہ جائیں گے۔ سعید نے دیکھا کہ امی ڈیوڑھی تک پہنچ گئیں۔

”میں کہتا ہوں کہ اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔“ یہ سعید کے ابا کی ڈانٹ تھی۔ سعید نے اس ڈانٹ کو اہمیت نہ دی۔ وہ اپنی کامیابی کی خوشی میں تھا۔ اس نے گھوڑے کی ٹانگ جوڑ لی تھی۔ اس نے خوشی میں گھوڑے کو اٹھایا اور یہ کہتا ہوا امی کی طرف دوڑا۔

”امی جڑ گئی۔ امی جڑ گئی۔ یہ دیکھو! یہ اب نہیں گرتا۔“ سعید نے زمین پر گھوڑے کو کھڑا کر دیا۔ ”دیکھو امی جڑ گئی نا!“

وہ داد طلب نظروں سے کبھی امی کی طرف دیکھتا کبھی ابا کی طرف۔ وہ جڑ گئی جڑ گئی کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ اس کی امی کے قدم رک گئے۔

”میرے لال! تو نے اس کی ٹانگ جوڑ لی۔ کوئی میرا ٹوٹا ہوا دل جوڑنے والا نہیں۔“

”آپ ہی کا دل ٹوٹا ہے۔ میرا تو سالم ہے نا!“  
سعید کی امی اس کے جواب میں کچھ کہنے والی تھیں کہ سعید بول اٹھا۔  
”مجھے دیجئے اپنا دل ایسے جوڑ دوں گا۔“

تو کاہے سے جوڑے گا؟

”ابا کی گوند دانی سے!“

”ابا کی گوند دانی سے! سعید کی امی یکدم ہنس پڑیں۔ دوسری طرف مردانے کمرے  
سے بھی تعجبہ بلند ہوا۔“

”ہاں بیٹے لے میری پوری گوند دانی حاضر ہے۔ دونوں دل جوڑ دے۔“

”ایک ذرا سے بچے نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ لی۔ ان سے دل نہیں جڑتا۔“

”جڑتا کیوں نہیں۔ کوئی جوڑنے والا ہو۔ اور یہ کہتے کہتے سعید کے ابو میاں گوند دانی  
لے ہوئے کمرے سے نکلے۔“

”یہ کھڑا ہے میرا گھوڑا ابو میاں! اب میں اس پر سوار ہو سکتا ہوں۔“

بیٹا! تیری ماں سے تو نہ ہو سکا لیکن تو نے میرا دل جوڑ دیا۔ اور یہ کہہ کر سعید کے

ابو میاں نے اُسے گود میں اٹھالیا۔ مسکرا کر بیوی سے کہا: ”جاؤ کیوں نہ میکے“

”جاؤں گی تو سعید کو لے کر جاؤں گی۔“

”کیوں؟ یہ میرا بیٹا ہے۔“

”میں بھی اس سے اپنا دل جڑواؤں گی۔“

”لاؤ امی ایہیں جوڑووں“

”شاباش بیٹا ٹھیک ہے!“ اور یہ کہہ کر سعید کے ابو نے بیوی کا بُرقع

اتار کر پھینک دیا۔ اور پھر ۶۔

اور پھر کا جواب ہم سے نہ پوچھئے، یہ ان سے پوچھئے جن کے متعلق کسی

شاعر نے کہا ہے کہ : ۷

بڑا مزہ اُس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر

## جھوٹے سہارے

آبادی سے دوڑ بہت دور ایک میدان میں جہاں ہر وقت آنڈھی اور بارش کا کھٹکا لگا رہتا ہے میں نے ایک ڈھیلے اور پتے کو دیکھا دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جی ہاں! باتیں کر رہے تھے۔

پتہ: دوست میں آنڈھی سے بہت گھبراتا ہوں۔ میرے دوست! آنڈھی آئے تو تم میری مدد کے لئے میری پٹیوں پر بیٹھ جانا۔ اس طرح میں آنڈھی کی زد سے بچ جاؤں گا۔ وہ مجھے اڑا کر نہ لے جاسکے گی۔“

ڈھیللا: بارش میری جان کے پیچھے پڑی رہتی ہے جہاں مجھے دیکھا برس ہی تو پڑی اور پھر مجھے ختم کر ڈالتی ہے لیکن دوست، اب مجھے کاہے کا ڈر ہے مجھے تم جیسا ساتھی مل گیا۔ تم چھتری بن کر مجھے ڈھانپ لو گے۔ مجھے بارش کے بے رحم ہاتھوں سے بچا لو گے۔ سمجھ گئے نا!“

میں حیران تھا کہ یہ بے جان چیزیں باتیں کر رہی ہیں اور باتیں بھی کیسی دوراندیشی کی۔ دونوں بہت اچھے ساتھی ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے آنڈھی کی

سنناہٹ اور پھر سرراہٹ اور پھر خشکی محسوس کی اور پھر آسمان ابرا لود و لیکھا اور پھر دیکھتے دیکھتے بادل گڑ گڑانے لگے۔ یہ سب اتنی جلد ہو گیا کہ میں اسے منٹ کے حصوں میں تقسیم کروں تو آپ اُسے خواب ہی مانیں گے لیکن سنئے تو ہوا کیا جب آنڈھی کی سرراہٹ ہوئی تو واقعی پتہ ڈھیلے سے اس طرح لپٹ گیا کہ آنڈھی کا اُسے ڈرنہ رہا اور ڈھیلے نے سمجھ لیا کہ اب وہ بھی بارش کے پانی سے بچ جائے گا لیکن جب پانی بہتا ہوا چلا تو ڈھیلہ اس سے پگھلنے لگا۔ وہ پگھل گیا اور پھر پانی پتے کو بہا لے گیا۔ اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل نے پکارا : —

”سب جھوٹے سہارے۔ سہارا بس ایک، اور وہ ہے — خدا کا۔“  
میری آنکھیں کھل گئیں۔ جانے یہ خواب تھا یا بیداری۔ بہر حال کچھ ہو میری آنکھیں کھل گئیں۔

( ایک انگریزی افسانے سے استفادہ )